

SENATE OF PAKISTAN

SENATE DEBATES

Friday, April 24, 2009

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) Islamabad at 11.15 in the morning with Mr. Chairman (Mr. Farooq Hamid Naek) in the Chair.

Recitation from the Holy Quran

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ-

ترجمہ : دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے، سو جو کوئی  
معبودان باطلہ کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لئے ٹوٹنا (ممکن)  
نہیں، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف  
لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں (حق کی) روشنی سے نکال کر (باطل کی)  
تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

سورۃ البقرۃ آیات نمبر 256 تا 257

Questions and Answers

Mr. Chairman: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ We may now take up Questions. Dr. Khalid Mahmood Soomro Sahib.

45. \*Dr. Khalid Mahmood Soomro: (Notice received on 30-01-2009 at 13:05 p.m.)

Will the Minister for Social Welfare and Special Education be pleased to state:

(a) the function of Pakistan Bait-ul-Mal;

- (b) the number of organizations being run by Pakistan Bait-ul-Mal in the country; and
- (c) the expenditures incurred by the Pakistan Bait-ul-Mal during the last ten years with head-wise break up?

Ms. Samina Khalid Ghurki: (a) In order to reduce poverty and empower the rural and urban poor in Pakistan, the government established Pakistan Bait-ul-Mal (PBM) as the lead institution of the country, under the umbrella of M/o Social Welfare and Special Education, in 1992. Pakistan Bait-ul-Mal, being a social welfare organization has initiated following effective programmes to break the vicious circle of poverty:

(i) INDIVIDUAL FINANCIAL ASSISTANCE (IFA)

The poor, widow, destitute women, orphans and disabled persons are supported through medical treatment, education stipend, rehabilitation and General assistance.

Assistance for medical treatment is provided through government hospitals upto Rs.300,000/-

Deserving and brilliant students are paid education stipends in accordance with prescribed fee of government institutions maximum upto Rs.60,000/-.

Assistance maximum upto Rs.40,000/- is provided to make the poor persons self reliant.

Pakistan Bait-ul-Mal assists the poor to meet any emergent need as an economic shock therapy upto Rs.30,000/-

The poor disabled persons who need wheel chair, tricycle, movable beds, crutches, artificial limbs or hearing aid are provided these items as per the need for physical rehabilitation with maximum cost upto Rs.30,000/-

(ii) NATIONAL CENTRES FOR REHABILITATION OF CHILD LABOUR AND ORPHANS (NCsRCL)

NCsRCL have been established countrywide where the children between the age of 5-14 years are weaned away from hazardous labour and enrolled in the centres.

They are provided free education, clothing, footwear, books and stationery.

Primary level syllabus was taught in 4 years through informal education. Summer vacations and local holidays were not observed. Now the policy has been revised by introducing the normal primary education system. Participation of the community was ensured through a School Management Committee.

So far, 151 centres have been established all over the country.

(iii) VOCATIONAL DASTKARI SCHOOLS (VDS)

The schools are providing free training to widows, orphans and poor girls in different skills like cutting, drafting, tailoring, hand embroidery, machine embroidery, hand knitting, computer, fabric painting, block printing, glass work and zari work etc.

Number of students is sixty for one session of six months duration.

Operation of the schools is on double shift basis.

Raw material is provided free of cost.

Involvement of local community, NGOs/CBOs, philanthropists and social workers is ensured.

So far, 141 centres have been established all over the country.

(iv) INSTITUTIONAL REHABILITATION (NGOs).

NGOs engaged in welfare projects are provided financial assistance through Pakistan Bait-ul-Mal in following three categories:

I. Institutional Support for the poor

Sharing of capital cost by PBM at a ratio of 50% in rural/urban areas.

Financing of rural based projects upto Rs.0.2 million without NGO's contribution.

II. Free eye care for cataract operation

Technical committee assists PBM in selecting suitable NGOs. Actual expenses of treatment are reimbursed on quarterly/annual basis.

III. Innovative pilot rehabilitative project

PBM-NGO's partnership for 3-5 years.

Sharing of capital cost by PBM and by NGO.

Coverage approximately 700,000 beneficiaries in all categories.

(v) JINNAH BURN AND RECONSTRUCTIVE SURGERY CENTRE, LAHORE.

PBM has signed as tripartite Memorandum of Understanding (MoU) on 21-05-2004 with Government of Punjab and Jinnah Hospital, Lahore for setting up of a state-of-the-art, single purpose burn unit in the premises of Jinnah Hospital, Lahore. PBM will bear the cost upto Rs. 500 million out of which 150 million has been released. The required land would be provided by Government of Punjab in the premises of Jinnah Hospital Lahore. It will be a 60-65 bedded state-of-the-art model burn and reconstructive surgery center with facility of aerial evacuation.

(vi) CHILD SUPPORT PROGRAMME (CSP)

Child Support Programme is an add-on programme of Food Support Programme.

The programme has been launched in 5 districts (i.e. one district from each province and one from Northern Areas) from Financial Year 2006-07.

Upon successful evaluation, the programme will be scaled-up country wide in a phased manner.

Households registered under Food Support Programme having children between 5-12 years are eligible for the programme.

Each beneficiary family is entitled to receive Rs.200/- per month for one child and Rs.350/- if they have two or more children of school going age and/or going to school.

Children have to attend at least 80% of classes.

A very refined Management Information System (MIS) has been developed for successful implementation and monitoring of the programme.

(b) Pakistan Bait-ul-Mal is not running any organization in the country.

(c) The expenditures incurred by the Pakistan Bait-ul-Mal during the last ten years is Rs. 20.084 billion. Head-wise break-up is attached at Annex-"A".

پہلے سوال نمبر پڑھ لیجئے گا۔  
Mr. Chairman: Any supplementary.

سینیٹر پروفیسر خورشید احمد: اس سوال کا تعلق دراصل پاکستان بیت المال سے خصوصیت سے ہے۔ میں نے جو سرسری نظر اس پر ڈالی ہے تو اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم نظر آتی ہیں جن کی وضاحت ہو جائے تو میں ممنون ہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بیت المال کے۔۔۔۔

جناب چیئرمین: پروفیسر صاحب کا mike کھول دیجیے گا۔

سینیٹر پروفیسر خورشید احمد: شکریہ جناب۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ اس سوال کا منطقی تکتہ بیت المال ہے اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بیت المال زکوٰۃ فنڈ سے ایک الگ چیز ہے اور اس کا مقصد مستحقین کی مدد ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ کے زمرے میں نہ آتے ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں 5-2004 میں 3.5 billion ہے۔ اس کے بعد 3.3 پھر 3.0 پھر 7.5 اور آخر پر نو مہینے کا صرف 6.25 پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلسل اس میں کمی کیوں آ رہی ہے جبکہ ملک میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات اس میں جو administrative expenses ہیں وہ ہر سال بہت زیادہ ہیں، اسکی وجہ کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں دو سے لے کر تین بلین کا surplus show ہو رہا ہے۔ میری نگاہ میں یہ criminal چیز ہے کہ جب ملک میں غربت کا یہ حال ہو تو جو بھی آپ کو resource ملے ہیں کم از کم وہ تو آپ خرچ کر دیجیے لیکن ہر سال ڈیڑھ، دو، تین اور ساڑھے تین بلین کا surplus رکھنا، اس کو بینک میں رکھ کر سود لینا یہ کہاں تک justify کرتا ہے؟ میرے یہ تین سوال ہیں۔

Mr. Chairman: Mrs. Samina Khalid Ghurki Sahiba.

محترمہ ثمنینہ خالد گھر کی (وفاقی وزیر برائے خصوصی تعلیم): شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ یہ میرے senior بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں۔ ان کا سوال بہت زیادہ valid اس لحاظ سے ہے کہ بیت المال کی اس وقت جو position ہے اس سے پاکستان میں لوگ بڑی اچھے طرح aware ہیں کہ اس کے کیا کام ہیں۔ میں یہاں پر تھوڑا سا ضرور بتاؤں گی کہ بیت المال کو amount جو ہر سال ملتی ہے یہ last quarter میں زیادہ ملتی ہے، جس طرح کہ اب ملی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پھر خرچ کرنے کے لئے وقت دو مہینے رہ جاتا ہے۔ اس میں جو بھی ہمارے اخراجات ہیں، ہمارے پاس جو اس وقت applications ہیں یا individually financial assistance جو دے رہے ہیں Medical and education کے لحاظ سے اور ویسے بھی جیسے آپ نے بتایا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے amount اس لئے زیادہ بچی ہے کہ food support programme اور محترمہ بے نظیر صاحبہ کا جو income support programme ہے اس میں duplication سے بچنے کے لئے اس کو روکا گیا ہے اور ایسا سب کے consensus سے کیا ہے۔ سب صوبوں سے لوگ جو ہمارے board کے members ہیں ان کو بلا کر ان کے consensus سے یہ کیا تھا کیونکہ اس طرح ایک ہی طرح کے double programmes چل جانے کا خدشہ تھا تو یہ amount جو اس وقت زیادہ ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب صوبوں میں یہ مدد ہر صورت میں پہنچائیں۔ ہمارے کافی سارے programmes چل رہے ہیں جس طرح child labour والا ہے۔ Medical کی جو facility ہے تین لاکھ روپے، آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا مہنگا علاج ہے تو اس کے لئے

ہم مدد دے رہے ہیں! Individually بھی ہم مدد دیتے ہیں کہ کوئی فرد چھوٹا موٹا اپنا کام کر سکے۔ یہ جو assistance ہے ہم provide کر رہے ہیں۔ سب سے main بات یہ ہے کہ یہ funds lapse نہیں ہوتے۔ اسی لئے یہ ہر سال آپ کو نظر آتے ہیں۔ ان کو ہم جتنا خرچ کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں۔  
جناب چیئرمین: شکریہ۔ سلیم سیف اللہ صاحب۔

سینئر سلیم سیف اللہ خان: جناب چیئرمین! کافی تفصیلی جواب آیا ہے۔ میں بھی پروفیسر صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے کہوں گا کہ مجھے اس بات کا علم ہے، میرے حلقے سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بیت المال اچھا کام کر رہا ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہم اس کو تیس بتیس کروڑ سے آگے لے گئے ساڑھے تین ارب روپے پر، بلکہ ہماری تو یہ خواہش تھی اور تجویز تھی کہ اس کو ساڑھے سات ارب پر لے جایا جائے۔ ابھی ان سے میرا سوال ہے کہ یہ جو 62 کروڑ روپیہ ابھی آگیا ہے۔ اس سال 9-2008 آپ کو حکومت کی طرف سے پیسے مختص ہوئے ہونگے، ہمیں بتایا جائے کہ اس سال آپ کو اس مد میں کتنے پیسے دیئے جائیں گے۔

محترمہ ثمنینہ خالد گھر کی: میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس un-spent amount ہے یہ وہی ہے کہ جو ہم food support کی صورت میں لوگوں کو مہیا کرتے تھے۔ یہ اسی کی ہی رقم ہے جو ابھی آخر میں ملی ہے جس میں ہم نے Jinnah burn centre میں کچھ رقم بھجوائی ہے۔ ابھی اس لئے یہ amount زیادہ لگ رہی ہے کہ اس کو ہم نے روکا ہوا ہے اور یہ جتنے بھی صوبے ہمارے ہیں ان کا جس طرح کا share آئے گا اس رقم کو پورے پاکستان میں divide کریں گے اور یہ رقم سارے صوبوں میں جائے گی۔ جس طرح کہ پہلے food support programme سے پورے پاکستان کے لوگوں کو ہم مدد دے رہے تھے، اسی طرح جو محترمہ بے نظیر صاحبہ کا جو income support programme ہے اس میں duplication سے بچنے کے لئے اس کو روکا گیا ہے۔ اس لئے یہ amount آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے۔ Main amount food support programme کی بچی ہوئی ہے اور ابھی بھی وہ سب سے collect ہو رہا ہے۔ پوری amount اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے cases آچکے ہیں کہ جس میں یہ distribute ہو سکے گی۔ بہت سارے ایسے programmes ہیں، ان سب کی detail آگے ہے۔ مزید اس میں کوئی سوال پوچھنا ہے کہ جو رقم ہم جس طرح دے رہے ہیں اور اگر علیحدہ سے کسی نے پوچھنا ہے تو بھی میں بنا سکتی ہوں۔ یہ پیسے ابھی ہمیں release ہوئے ہیں کیونکہ last quarter میں یہ آتے ہیں۔

جناب چیئرمین: ڈاکٹر خالد محمود سومرو۔

سینئر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: Thank you Mr. Chairman. اس وقت اندرون سندھ میپائٹنس کی بیماری و بانی شکل اختیار کر چکی ہے۔ پہلے وزیراعظم کی طرف سے ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا۔ آپ کی منسٹری کی طرف سے بھی ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے لیکن سندھ میں تقریباً بیس لاکھ مریضوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے جو میپائٹنس کے مریض ہیں۔ known patient میپائٹنس کے حوالے سے ہسپتالوں میں اتنی ادویات نہیں ہیں۔ علاج بہت مہنگا ہے۔ ہم نے مختلف اضلاع سے ہسپتال کے through بیت المال کو ان کے کاغذات بھجوائے لیکن ان کا کوئی

خاص response ہمیں نہیں ملا اور بہت سارے مریض بیچارے لہڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو انفرادی مالی امداد (IFA) اس میں کیا بیمار لوگوں کے علاج کے لئے فنڈز بھی شامل ہیں۔

نمبر ۲۔ یہ جو child labour اور یتیم افراد کے لئے یہ تعاون کر رہے ہیں۔ ان کا طریق کار کیا ہے؟ ووکیشنل دستکاری سکول صوبہ سندھ میں ہمیں اس کی تفصیلات کا کوئی علم نہیں۔ ہم نے پہلے بھی پوچھا تھا لیکن ہمیں تفصیل نہیں بتائی گئی۔ اس کے علاوہ NGOs کے ذریعے یہ جو تعاون کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، بہت سارے جعلی NGOs ہیں۔ کام کرنے والے NGOs بہت کم ہیں۔

جناب چیئر مین: آپ سوال کریں۔

سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا طریق کار آپ وضع کریں۔ ایک تو پیپا ٹائٹس کے مریضوں کے لئے جو آپ کے پاس cases آرہے ہیں ان میں آپ نے کیا کیا؟ نمبر ۲ صوبہ سندھ میں آج تک آپ نے کتنے بیمار افراد کو علاج کے لئے پیدا دیا۔ آپ کے جو دستکاری سکولز ہیں ان میں آپ کے پاس صوبہ سندھ کا حصہ کیا ہے؟ Child labour اور یتیم افراد کے حوالے سے ہمارے صوبے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ جتنے cases ہم نے بھیجے ہیں اپنے علاقے سے تقریباً وہ تمام واپس آچکے ہیں۔ اس کے علاوہ NGOs کے لئے کوئی آپ نگران کمیٹی تو بنائیں جو تحقیقات کرے۔

جناب چیئر مین: ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔

سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: تاکہ امداد صحیح افراد تک پہنچے۔ اگر محترمہ وزیر صاحبہ اس حوالے سے

-----

جناب چیئر مین: محترمہ وزیر صاحبہ please جواب دیجیے۔

محترمہ ثمنینہ خالد گھر کی: دیکھیں جی انہوں نے بہت سارے سوال پوچھے ہیں اور سب ہی صوبہ سندھ سے متعلق ہیں۔ ابھی بھی میں ان کو تفصیل بتاتی ہوں لیکن next time یہ سوال ضرور دیں۔ جس میں، میں صوبہ سندھ کی detail ان کو فراہم کر دوں گی۔

جناب چیئر مین: شاہد بگٹی صاحب۔

محترمہ ثمنینہ خالد گھر کی: ابھی میں ان کو تھوڑا سا بتا دوں۔

جناب چیئر مین: بتادیں۔

محترمہ ثمنینہ خالد گھر کی: انہوں نے پیپا ٹائٹس کے حوالے سے پوچھا ہے۔ ہمارے پاس جتنے cases آتے ہیں کیونکہ تمام رقم ابھی ہمیں release ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کافی زیادہ مسائل آرہے تھے کیونکہ ہمارے پاس یہی ایک ذریعہ ہے اس کو فنڈز سمجھ لیں یا funding ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے food support programme کی جس کو اب ہم دوسری چیزوں پر زیادہ مدد فراہم کر رہے ہیں۔ میڈیکل کے ایک کیس پر ہم لوگ تین لاکھ روپے دیتے ہیں۔ اس میں criteria cases ہوتا ہے کہ patient کس طرح ہے اور کس طرح کی مدد دی جاسکتی

ہے۔ Particularly انہوں نے مجھ سے سندھ کا پوچھا ہے تو سندھ کی جو detail ہے وہ میں ضرور دے دوں گی۔  
 پیپٹاٹس پر وزیراعظم صاحب کا پروگرام ہے لیکن ہم بیت المال کی مدد سے بھی یہ پروگرام چاروں صوبوں میں شروع  
 کر رہے ہیں اور centre میں بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ انشاء اللہ اس کا جو pilot ہے اس مہینے کے first week یا  
 second week میں start کر دیں گے۔ پیپٹاٹس کا بیت المال سے ہم فری علاج کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بیماری  
 صرف سندھ میں ہی نہیں ہے بلکہ پورے ملک میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہم اس میں سارے صوبوں کو  
 involve کریں گے اور جتنی مدد دے سکیں گے ضرور دیں گے۔  
 جناب چیئر مین: شاہد بگٹی صاحب۔

سینیٹر شاہد حسن بگٹی: جناب چیئر مین! آپ کے توسط سے میں honourable Minister sahiba سے یہ  
 پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا بیت المال سے سیاسی مقاصد کے لئے پیسے دیئے جاتے ہیں۔ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر برائے  
 مہربانی یہ بتایا جائے کہ year 2001 سے لے کر کے year 2007 تک بگٹی tribes کے account میں ایک  
 خطیر رقم show کی جا رہی ہے۔ یہ کس مد میں پیسے دیئے گئے اور کن کو پیسے دیئے گئے؟  
 محترمہ ثمنینہ خالد گھر کی: انہوں نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے اس پروگرام کو  
 استعمال کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے سارے لوگ پاکستانی ہیں اور سیاستدان بھی پاکستان سے ہی ہیں۔  
 اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو پھر یہ سمجھنا کہ صرف سیاست کے لیے یہ فنڈ استعمال ہوتا ہے، اگر کوئی اسے اپنی  
 campaign پر خرچ کرے یا اپنی ذات کے لیے تو پھر آپ اس کو اس میں involve کر سکتے ہیں لیکن ہر پاکستانی جو ہمارے  
 criteria پر پورا اترتا ہے تو اس کی مدد کی جاتی ہے۔ وہ پاکستانی کسی بھی صوبے سے ہو اس کی بیت المال سے مدد کی جاتی  
 ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک خاص جگہ کے متعلق پوچھا اس کے لیے یہ fresh question دے دیں تو میں  
 ضرور اس کی detail بتا دوں گی۔

جناب چیئر مین: بلور صاحب اور زاہد صاحب آپ فیصلہ کریں کہ آپ میں سے کون سوال کرے گا۔  
 سینیٹر الیاس احمد بلور: جناب چیئر مین! معزز وزیر صاحبہ کیا یہ مجھے بتا سکیں گی کہ جیسے انہوں نے لاہور  
 میں Jinnah Burn Centre بنایا ہے کیا ایسے ہی کوئی ان کا ارادہ ہمارے صوبے پختونخواہ میں پشاور میں بنانے کا ہے یا  
 نہیں اگر ہے تو بتادیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بورڈ کی meeting سال میں کتنی دفعہ ہوتی ہے؟  
 محترمہ ثمنینہ خالد گھر کی: جناب! ان کا پہلا سوال ہے لاہور کے Burn Centre کے متعلق، وہ بہت دیر  
 سے چل رہا تھا۔ ہمارے ملک میں کوئی اتنا بڑا Burn Centre نہیں ہے، چھوٹے ہیں یہ 65 beds کا ہے۔ یہ کوئی 5  
 hundred million کا project تھا جس میں آدھا share Punjab Government نے دیا ہے اور آدھا پاکستان بیت  
 المال سے دیا گیا ہے جس میں سے 150 million ہم نے release کر دیا ہے باقی بھی کر دیں گے لیکن اگر ان کا کوئی  
 ایسا project ہے جہاں پر یہ چاہتے ہیں کیونکہ کسی جگہ پر بھی حادثہ لوگوں کو ساتھ پیش آ سکتا ہے، اس کی بہت زیادہ  
 ضرورت ہے، اگر یہ کسی قسم کی مدد چاہتے ہیں تو اپنا project بتادیں، ہم بیت المال سے ان کی مدد کریں گے۔

Mr. Chairman: Last supplementary Professor Ibrahim Sahib.

سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: شکریہ جناب چیئرمین۔ محترمہ وزیر صاحبہ نے یہ بتایا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے نوڈ سپورٹ پروگرام کو روکا گیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ بینظیر سپورٹ پروگرام صرف نوڈ میٹرل ہی کے لیے استعمال نہیں ہو رہا بلکہ وہ محتاج لوگوں کے پاس پہنچتا ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے دونوں کو confuse نہ کیا جائے اور انہیں الگ الگ رکھا جائے اور نوڈ سپورٹ پروگرام کو اس پروگرام کی وجہ سے نہ روکا جائے۔

جناب چیئرمین: مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے Treasury Benches کے members بھی بے اندازہ سوالات کر رہے ہیں حالانکہ اپوزیشن کو کرنا چاہیے، تو this is the reason I am giving chance to everybody کیونکہ Opposition کا بھی حق ہے۔ کوئی بات نہیں Minister Sahiba is here. ایک جملہ ہے "ordinarily not exceed three questions" اس لیے جب کوئی important سوال ہوتا ہے تو پھر let them ask the question۔ جی سیمیں صاحبہ آپ بھی پوچھ لیں۔

سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: میرا سوال کچھ ابراہیم صاحب نے بھی لے لیا، میں بھی آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پبلے اخباروں میں آیا تھا کہ نوڈ سپورٹ پروگرام کا جو فنڈ ہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں shift کر دیا گیا ہے تو آیا یہ بات درست ہے اور اگر درست ہے تو جو لوگ نوڈ سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو رہے تھے، اب ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ سب کو تو forms نہیں ملے، جن کو forms مل گئے تو چلو ٹھیک ہے ان کو تو کچھ انکم سپورٹ مل گئی ہے، لیکن جو باقی نوڈ سپورٹ پروگرام کے کئی لاکھ بندے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ میرے خیال میں ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ شکریہ۔

محترمہ ثمنینہ خالد گھری: ہماری کمیٹی کی جو مینٹنگ ہوئی تھی اس نے decide کیا تھا کہ بہت سارے programmes ایسے ہیں جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی department نہیں ہوتا جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ نوڈ سپورٹ پروگرام میں سالانہ تین ہزار روپے ہم ایک فیملی کو دیتے تھے۔ اب جو محترمہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ twelve thousand per year بنتا ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ جب ہماری 16 یا 17 کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں سے لاکھوں ہی کو جا رہا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ اسے کسی خاص پارٹی کو دیا جا رہا ہے۔ وہ forms سب members میں تقسیم ہوئے ہیں، وہ MPAs میں بھی تقسیم ہوئے ہیں، اب Senators کو بھی 8 thousand forms دے رہے ہیں۔ اس میں ایک criteria ہے اور اگر کوئی form reject ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ ان کے bank accounts نہیں ہیں اور لوگوں نے ایسے ہی forms fill کر دیئے ہیں تو اس قسم کے cases reject ہوئے ہیں۔ پروفیسر ابراہیم صاحب نے اسی کے متعلق پوچھا ہے کہ وہ amount کدھر جاتی ہے۔ ہم نے اس بارے میں Prime Minister سے request کی تھی کیونکہ ہزاروں کے حساب سے ہمارے پاس medical cases اور education کے cases آگئے تھے تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہ جو unspent amount ہے اسے آپ lapse نہ ہونے دیں۔ ہمیں

ان لوگوں کی مدد کے لیے پورے پاکستان سے کافی requests مل رہی ہیں۔ ہمارے معزز اراکین نے بتایا ہے کہ بہت زیادہ وبائی بیماریاں پھیل رہی ہیں جن کے اخراجات بہت زیادہ ہیں جن میں سے hepatitis بہت زیادہ عام ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہم نے ان سے request کی ہے کہ یہ جو amount ہے وہ ہمیں دی جائے۔

Mr. Chairman: Thank you. Now we come to the next question No. 46 Dr.

Khalid Mahmood Soomro.

46. \*Dr. Khalid Mehmood Soomro: (Notice received on 30-01-2009 at 13:05 p.m.)

Will the Minister for Social Welfare and Special Education be pleased to state:

- (a) the number of social organizations to which financial assistance is being provided by the Ministry indicating also the purposes for which that assistance is being granted; and
- (b) the names and addresses of social organizations to which financial assistance was granted during the last ten years indicating also the details of such assistance provided in each case?

Ms. Samina Khalid Ghurki: (a) There are 1963 social organizations to which financial assistance is being provided by the Ministry and its allied organizations. Their details are as under:—

S. No.	Name of Organization	Nos.
1.	Main Ministry	02
2.	Directorate General of Special Education	45
3.	Pakistan Bait-ul-Mal	473
4.	Trust for Voluntary Organization	1093
5.	National Council of Social Welfare	350
Total :		1963

The purposes for which financial assistance is being granted to NGOs are as under:—

- (i) To contribute to the progressive elimination of child labour in domestic services of the country.
  - (ii) To progressively ensure mainstreaming of the target children in the formal education system and alternative non-exploitative livelihoods.
  - (iii) Provision of monthly stipend to the targeted children/ families.
  - (iv) Provision of recreational facilities to the target children.
  - (v) To facilitate poor students of the Special Education Centres for continuation of their studies.
  - (vi) Strengthening NGOs in their rehabilitation programmes.
  - (vii) For institutional support to persons with health, special education, disabilities, orphans, destitute, elderly and juveniles, eye cataract surgeries and kidney dialysis.
  - (viii) For up-gradation in various fields such as health, education, vocational training, skill development, I.T., water supply and sanitation.
- (b) The names and addresses of social organizations to which financial assistance was provided by the Ministry and its allied organizations during the last ten years are as under :—

1. Main Ministry	Annex-I.
2. Directorate General of Special Education.	Annex-II
3. Pakistan Bait-ul-Mal.	Annex-III
4. National Council of Social Welfare.	Annex-IV
5. Trust for Voluntary Organization.	Annex-V

(Annexures have been placed on the Table of the House as well as Library)

Mr. Chairman: Any supplementary question?

سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: میرے سوال کے جواب میں چاروں صوبوں کی تفصیل ہمیں نہیں دی گئی۔ جن اداروں کو مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے اس میں سندھ، پنجاب، سرحد اور بلوچستان کے متعلق تفصیلات ہم نے مانگی تھیں اس میں province-wise تفصیل نہیں دی گئی اور جو تفصیلات مجھے ملی ہیں اس میں اندرون سندھ کو تقریباً نظر انداز کیا گیا ہے حالانکہ اندرون سندھ کے حالات کافی حد تک خراب ہیں۔ اگر وزیر صاحبہ ہمیں کچھ اس سلسلے میں بتائیں کہ چاروں صوبوں کا اس میں break up کیا ہے جو مختلف اداروں کے ذریعے انہوں نے تعاون کیا اس میں اندرون سندھ کا share انہوں نے کیا رکھا ہے؟

محترمہ ثمنینہ خالد گھرکی: میں اپنے معزز ممبر سے یہ کہوں گی کہ انہوں نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب بڑا detail میں دیا گیا ہے۔ انہوں نے Province-wise پوچھا ہی نہیں تھا۔ بہر حال اگر یہ کہیں گے تو ان کو province

wise detail – بھی دے دی جائے گی۔ اگر اس جواب سے ہی satisfied نہیں تو پھر fresh question دے دیں تو اس کا جواب میں ضرور دے دوں گی۔

سینیٹر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ: بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ سماجی بہبود کی وزیر صاحبہ تشریف فرما ہیں اور ہمارے ماحولیات کے وزیر حمید اللہ جان صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں۔ Hepatitis کے اتنے زیادہ مریض ہو گئے ہیں تو میں حمید اللہ جان صاحبہ اور اپنی محترمہ وزیر صاحبہ سے یہ پوچھوں گا کہ سماجی بہبود بہت ہی مختصر سا لفظ ہے جو کہ کروڑوں چیزوں کے اوپر محیط ہے اور کروڑوں قسم کے شعبے اس میں آتے ہیں تو hepatitis کا علاج اور اس کے injections اور اتنے منہگے جب کہ یہ لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں۔ جب ماحولیات کی وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے تو وزیر ماحولیات صاحبہ یہ بتائیں کہ اتنی conferences اور اتنے seminars ہوئے اور اتنے اتنے خوبصورت کارڈز اور دعوت نامے ہمیں بھیج کے سماج کی اب تک کیا خدمت کی ہے جس سے کہ ان امراض کو روکا جاسکے۔

محترمہ ثمنینہ خالد گھری: جناب! اس سلسلے میں گورنمنٹ کے کافی سارے programmes آرہے ہیں جس کا Environment Minister ہی بتا سکتے ہیں پینے کا صاف پانی بھی ان وجوہات میں شامل ہے جن سے لوگ Hepatitis کا شکار ہو رہے ہیں، اسے control کرنے اور اس سے بچنے کے لیے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور لوگوں میں awareness پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ ان کو avoid کریں اور اگر ان کے پاس ایسی کوئی facility نہیں ہے تو پانی ابال کر پیئیں۔ بہت سارے طریقے بتائے جا رہے ہیں لیکن ان کا main سوال جو ہے کہ Hepatitis کی روک تھام کے لیے کیا ہو رہا ہے یا جیسے انہوں نے کہا ہے کہ سماجی بہبود چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ واقعی ان کی بات حقیقت ہے کہ ہم اس پر جتنی بھی توجہ دیں، کم ہے۔ اس میں جس طرح حکومت کی responsibility ہے، اسی طرح private sector اور ہماری community کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ جو بھی مسائل آرہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم انہیں حل کریں۔ جیسا انہوں نے کہا یہ حقیقت ہے کہ تین لاکھ تک ایسے cases سامنے آئے اور اب سینکڑوں نہیں ہزاروں cases پورے پاکستان سے بیت المال کے پاس آرہے ہیں کہ جن کو ہم مدد فراہم کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کے لیے special programme شروع کریں، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مئی کے first نہیں تو second week میں سپانائٹس کے لیے programme شروع کر رہے ہیں تاکہ directly لوگ آئیں پاکستان بیت المال میں اور ان کو مدد ملے، ان کے ٹیسٹ ہوں اور اس کے بعد ان کا علاج ہو کیونکہ یہ ایک بہت expensive علاج ہے۔

جناب چیئر مین: ڈاکٹر بلیدی۔

سینیٹر ڈاکٹر محمد اسماعیل بلیدی: جناب چیئر مین! میں وزیر محترمہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جن اداروں کو پیسے دے رہے ہیں آیا ان کے پاس کوئی check and balance کا یا monitoring کا کوئی طریقہ کار ہے کہ misuse of funds نہ ہو۔ وہ funds بالکل وہاں خرچ ہوتے ہیں یا پھر صرف ان کو funds دیتے ہیں اور ان پر کوئی check and

balance نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں میں standing committee میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے اور بہبودِ آبادی کے محکمے میں بڑے گھپلوں کی باتیں بھی ہو رہی تھیں تو اس پر check and balance رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟

جناب چیئرمین: شکریہ۔ جی۔

محترمہ ثمنینہ خالد گھری: اس کے لیے ہم audit کراتے ہیں، جو ہمارے پاس NGOs registered ہوتی ہیں ان کے لیے لیکن government کے معاملے میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں گھپلا ہوا ہے، جب سے میں ادھر آئی ہوں تو ایسی بات نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے ایک ایسا پروگرام تھا جس کا ذکر standing committee میں ہوتا رہا، 'توانا پروگرام' کے نام سے ایک پروگرام تھا جس کو روک دیا گیا ہے۔ اب اس وقت ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے جس میں کوئی گھپلا ہو۔ جو پہلے تھے آپ کو علم ہے ان پر کارروائی ہو رہی ہے۔

جناب چیئرمین: مندوخیل صاحب۔

سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: انہوں نے جواب دیا ہے کہ NGOs 1963 اور دوسری organizations کو assistance دی گئی ہے، کیا اس کا ان سالوں میں کوئی audit ہوا ہے اور اگر ہوا ہے تو اس کی رپورٹ یہاں House میں پیش کریں۔ مجموعی طور پر ابھی تک جو کچھ انہوں نے دیا ہے اور اس کا جو کچھ خرچہ ہوا ہے، اس کی audit report پیش کی جائے۔

محترمہ ثمنینہ خالد گھری: دیکھیں، اس میں انہوں نے جو detail مانگی ہے، question دے دیں تو ان کو detail بھی مل جائے گی۔ آپ کا جو main سوال ہے کہ آیا audit ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، جتنے بھی ہمارے attached departments ہیں، ان کا audit ہوتا ہے اور ہمارے پاس تمام reports ہیں۔ Private sector سے جنہیں ہم نے funds دیے ہیں ان سے ہمیں reports collect کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ کو ان کی details بھی چاہیں تو آپ اپنے سوال میں بتادیں تو ہم وہ بھی آپ کو provide کر دیں گے۔

سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: جناب! پیش کریں ہم تو یہ کہیں گے۔

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے، پیش کر دیں گی۔ Zahid sahib is getting very impatient، last

supplementary from Zahid sahib.

سینیٹر محمد زاہد خان: جناب! میں honourable minister سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن NGOs کو یہ funds دیتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا یہ cases board of directors میں discuss ہوتے ہیں اور اگر discuss ہوتے ہیں تو پھر یہ province-wise دیا جاتا ہے یا کوئی اور طریقہ ہے؟

محترمہ ثمنینہ خالد گھری: این جی اوز کی registration ہوتی ہے جس کے لیے criteria ہے کہ دو سال انہوں نے کام کیا ہو۔ اس کا ایک criteria ہے، اس پر جتنی بھی NGOs پورا اترتی ہیں، ان کا کام کیسا ہے اور حقیقتاً یہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کے مطابق ان کو funding کی جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی ان پر check رکھا جاتا ہے۔

Mr. Chairman: Thank you. Next question Maulana Mohammad Saleh Shah.

47. \*Maulana Muhammad Saleh Shah: (Notice received on 30-01-2009 at 13:10 p.m.)

Will the Minister for Environment be pleased to state:

- (a) the details of steps taken by the government for the improvement of environment and tree plantation in South Waziristan;
- (b) the details of steps taken by the government for environmental improvement in FATA; and
- (c) the details of proposed projects for environmental improvement in those areas?

Mr. Hameed Ullah Jan Afridi: (a) As reported by the Conservator of Forests (FATA), the tree cover is being increased in FATA by raising plantations on denuded waste-lands in South Waziristan Agency. So far plantations have been raised over an area of 30716 acres in the Agency. During the year 2008-09 additional area of 1700 acres has been planted in the Agency.

(b) Following steps have been taken for the improvement of Environment in FATA.

Strengthening of Forestry Sector at Agency and FRs level by provision of Divisional Forest Officer (BS-18), Sub-Divisional Forest Officer (BS-17) and Range Forest Officer (BS-16) at Agency level for ensuring scientific management of forest.

Up-scaling the Forestry activities by raising of block plantations on denuded wasteland. So far 2,77,390 acres of block plantations have been raised in FATA.

Capacity building of local tribesmen in raising forest nurseries, plantations, sericulture, apiculture and other Non Timber Forest Products (NTFP) including medicinal plants and Fisheries so as to provide alternate sources of livelihood to them.

Awareness raising in participatory natural resource management.

Provision of job opportunities in forest nurseries, plantations, sericulture, apiculture and fisheries so that their direct dependence on existing forests could be minimized/reduced

(c) Following projects have been proposed for inclusion in PSPD 2009-10 in addition to FATA ADP.

---

S.No.	Name of Project	Cost (Rs. in million)	Period	Activities
1.	Development of Forestry resources for acres Carbon Sequestration Unit in FATA.	1445.875	5 years	Nursery 42 acres Plantation 34600 Solar Energy 200 Hydel Power 50 Unit Wind mills 200 unit
2.	Establishment of Woodlots and fruit acres Orchards on Terraces in FATA & their 2470 Management.	450.000	5 years	Nursery 22 acres Plantation 20000 Orchards 4800 acres Soil Conservation acres
3.	Plantation of Improved acres Olive Plants. Olive Conversion of Wild Olive trees into Oil Bearing Varieties and Post Management	400.00	5 years	Olive Nursery 10 Conversion of Wild 1.5 million Plants Olive orchards 3200 acres
4.	Hill Land Forestry in FATA acres	581.260	5 years	Nursery 27 acres Plantation 25200

Mr. Chairman: Any supplementary.

سینیئر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! وزیر محترم نے جواب میں یہ بتایا ہے کہ plantations have been raised over an area of 30716 acres. اس کا کوئی feed back بھی لیا ہے، کوئی check ہوا ہے کہ اس area پر فی الواقع plantation ہوئی ہے اور آگے 1700 ایکڑ پر مزید جو plantation ہونے والی ہے، کیا یہ عملاً ہوگا اور اس میں کوئی گھپلاؤ نہیں ہوگا؟  
جناب چیئرمین: منسٹر صاحب۔

جناب حمید اللہ جان آفریدی (وزیر برائے ماحولیات): جناب چیئرمین! شکر ہے۔ میری ایک گزارش ہے، اگر اس پر آپ کی ruling آجائے۔ Question Hour ایک بہت important agenda سمجھا جاتا ہے اور اس میں

public interest کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن normally دیکھا گیا ہے کہ جو question put کرتا ہے وہ خود حاضر نہیں ہوتا۔ یہ routine میں services centres میں بیٹھ کر لوگ questions سامنے کر دیتے ہیں اور یہ sign ہو جاتے ہیں۔ Compulsion ہونی چاہیے اگر وہ ممبر صاحب موجود نہیں ہیں تو on behalf کو اجازت ہونی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے اگر منسٹر نہ ہو تو ہال میں کیا شور مچتا ہے اور ان کے پیچھے ہوتا ہے تو لہذا یہ بھی compulsion ہونی چاہیے کہ جو question کرے وہ خود یہاں موجود ہو اور اگر کسی وجہ سے موجود نہیں ہے تو ان کے behalf پر اجازت نہ دی جائے۔

جناب چیئر مین: Rules allow کرتے ہیں on his behalf کو، ٹھیک۔ اب آپ جواب دیجیے۔  
 سینیٹر وسیم سجاد: جناب! میں صرف ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ On behalf کا مطلب ہوتا ہے کہ you are acting as the attorney, so you must have the authorization of the person to act on his behalf. یہ تو نہیں کہ جو مرضی ہے اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ اگر کوئی on his behalf ہوتا ہے تو he must produce an authorization that I have been authorized by that person to speak on his behalf.

جناب چیئر مین: وسیم سجاد صاحب! وہ stricto sensu یہ court نہیں ہے کہ۔۔۔۔۔

Senator Wasim Sajjad: There is some weight to be given to what the honourable Minister said because if this rule is followed, then people will take more interest in the proceedings.

جناب حمید اللہ جان آفریدی: جناب! نیشنل اسمبلی میں بھی یہ follow ہو رہا ہے۔ جناب، میں ان کے question کے part پر آؤں گا جو supplementary پروڈیوسر صاحب نے کیا ہے۔  
 جناب چیئر مین: میں ذرا پڑھ کر آپ کو سنادوں،

Rule 53 (3).-If, on a question being called, it is not put or the member in whose name it stands is absent, the Chairman may, at the request of any other member, direct that the answer to it be given.

ٹھیک ہے جی۔ لفظ ہے request جی۔

جناب حمید اللہ جان آفریدی: جناب! میں جواب کی طرف آؤں گا پروڈیوسر ابراہیم صاحب نے supplementary سوال کیا ہے، ایک تو اگر یہ چاہیں تو یہ 30,716 کا break-up دیا جاسکتا ہے کہ کس سال میں، کس particular جگہ میں یہ plantation ہوئی ہے۔ دوسری چیز کہ plantation اور forestation یہ provincial مسئلے ہیں اور اسی طرح فانا سے related فانا سیکرٹریٹ دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے جو ہمیں detail provide کی ہوئی ہے، اس کے مطابق یہ 30,716 ہے اور مزید انہوں نے بتایا ہے کہ 1,700 acres additional area یہ بھی North Waziristan میں plant ہو چکا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے different initiatives لیے ہیں agency اور F.R. level پر SDFO، DFO اور RFO کی تعیناتی بھی کر دی گئی ہے تاکہ وہ separately اس کو وہاں دیکھ سکیں۔ جہاں تک

دیکھنے کی بات ہے کہ وہاں لگے ہیں یا وہاں نہیں لگے ہیں، یہ تو وہاں کے elected members اور سینیٹرز کو چاہیے کہ وہ اس کی verification کریں اور اس کو دیکھیں اور باقاعدہ فائنل سیکرٹریٹ کو بلا کر ان سے اپنی تسلی کرائیں کہ آیا یہ لگے ہیں یا نہیں۔ اگر federal government سے کوئی assistance چاہیے، ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں، ہم ساتھ monitoring teams بھیج سکتے ہیں یہ ان کو lead کر لیں ان کو وہاں پر لے جائیں اور وہاں پر اپنی تسلی کر لیں کہ یہ لگے ہیں کہ نہیں۔

جناب چیئرمین: مولانا شیرانی صاحب۔

سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی: محترم وزیر صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ کیا وہ یہ وضاحت کرنا پسند فرمائیں گے کہ دو سال کے دوران کتنے درخت کاٹے گئے اور کتنے لگائے گئے ہیں۔

جناب حمید اللہ جان آفریدی: میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے بارے میں بتانا ہے کہ پاکستان کے جنگلات کے بارے میں۔

(تقتے)

جناب چیئرمین: پاکستان کے جنگلات کا بتانا ہے۔

جناب حمید اللہ جان آفریدی: جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا سوال بنتا ہے، کیونکہ میں اس ایوان کو اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں بتانا چاہتا کہ جو authentic نہ ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارے جنگلات پہلے کی نسبت improve ہوئے ہیں اور یہ mostly private farming کی وجہ سے improve ہوئے ہیں، ہمارے سرکاری جنگلات اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان میں improvement آئی ہے لیکن fortunately in private framing کچھ improvement آئی ہے اور یہ total land کا تقریباً 5% ہے جو کہ 2015ء تک ہم نے اس کو مزید 1% increase دینی ہے، one million hectare of land additional green cover میں لانی ہے۔ Over all اس میں increase ہے اس میں decrease نہیں ہے۔

جناب چیئرمین: آخری سوال، جناب محمد ہمایوں صاحب۔

سینیٹر محمد ہمایوں خان: سندھ سے متعلق وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سابق دور میں جب بھی along the National Highways afforestation ہوئی تو Eucalyptus کے درخت لگائے گئے ہیں جو کہ پانی کے آس پاس کے resources کو بالکل deplete کر دیتے ہیں، اس کو پانی کا دشمن سمجھ لیں۔ کیا مستقبل میں بھی انہوں نے جنگلات میں Eucalyptus لگانے ہیں یا اس سے بہتر plants and trees لگائیں گے؟

جناب حمید اللہ جان آفریدی: جناب چیئرمین! ماضی میں Eucalyptus کافی تعداد میں لگ چکے ہیں اور وہ بنیادی طور پر water logging areas کے لیے ہوتے ہیں لہذا اب ان کو کم کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسی جگہ میں جہاں پر already پانی کی کمی ہو وہاں پر Eucalyptus نہ لگائے جائیں۔ اب انشاء اللہ اس قسم کے

Motorways and Highways all indigenous plants کو ترجیح دی جا رہی ہے اور Eucalyptus کو avoid کیا جا رہا ہے۔

جناب چیئرمین: محترمہ فوزیہ فخر الزمان صاحبہ۔

سینیٹر فوزیہ فخر الزمان خان: میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف South Waziristan and FATA کے لیے ہی کرتے ہیں یا کسی اور علاقے مثلاً ہزارہ وغیرہ میں بھی کام کرتے ہیں کیونکہ میرے علاقے میں بہت لکڑی چوری ہو رہی ہے، پہاڑ خالی ہو گئے ہیں۔ اس وقت بھی تقریباً ایک ارب روپے کی لکڑی آج کل میں اسمگل ہونے والی ہے۔

جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔

جناب حمید اللہ جان آفریدی (وفاقی وزیر برائے ماحولیات): میں تو متعلقہ سوال کا جواب دے رہا ہوں، چونکہ انہوں نے پوچھا ہی وزیرستان کے بارے میں تھا۔ آپ ہزارہ کے بارے میں سوال پوچھتے تو اس کی بھی تفصیلات مہیا کر دی جاتیں لیکن آپ کی ایک بات سے میں agree کرتا ہوں کہ Provincial Government کی جانب سے کوہستان کی لکڑی کو allow کیا جا رہا ہے، اس کی illicit cutting ہو رہی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ صدر صاحب نے initiative لیا ہے اور Provincial Government کو انہوں نے letter لکھا ہے اور ان مسائل پر presentation دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم forest policy کو revise کر رہے ہیں۔ 1992-93 کی پالیسی میں کچھ ایسے lacunas ہیں جس کی وجہ سے یہ illicit cutting ہو رہی ہے۔ انشاء اللہ ہماری اس revised پالیسی سے illicit cutting بند ہو جائے گی۔

Mr. Chairman: Next Question No. 48. Mr. Talha Mehmood, on his behalf Dr. Safdar Ali Abbasi read Question number.

48. \*Mr. Muhammad Talha Mahmood: (Notice received on 31-01-2009 at 09:00 a.m.)

Will the Minister for Communications be pleased to state the amount paid to the contractors collecting toll tax at various toll plazas on motorways and national Highways in the county during the last two years?

Dr. Arbab Alamgir Khan: An amount of Rs 3116 million was paid to toll operation & management, contractors during the last two years.

Mr. Chairman: Any supplementary Question Dr. Safdar Sahib.

سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے the amount of Rs. 3116 million was also paid to toll operation میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی total amount collect ہوئی۔

ڈاکٹر ارباب عالمگیر خان (وفاقی وزیر برائے مواصلات): سب سے پہلے تو میں ان کو تھوڑا سا background بتا دوں کہ ہمارے ملک میں NHA کی jurisdiction میں 11000 kilometer roads ہیں لیکن یہ 11000 kilometer پاکستان کی 80% commercial traffic run on these roads جو revenue roads کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ approximately from the collection of tolls 99% سے آتی ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ toll culture اتنا developed نہیں ہے، ہم کو شش کر رہے ہیں کہ اس کو modern lines پر لے آئیں۔ جو ہمارے 2006-07 revenues میں آئے وہ net 7.6 billion تھے۔ اس پر ہمارا تقریباً 15% خرچہ ہوتا ہے۔ eight billion، 2007-08 in آئے تھے and I am really thankful to the Senate Standing Committee جنہوں نے ہمیں حکم دیا تھا۔ ہمارے 84 toll plazas اور 95% کے پاس تھے، سینیٹ کی Standing Committee نے ہمیں کہا تھا کہ 25% toll plazas آپ ان سے لے لیں۔ ہم نے ان سے 26 toll plazas لیے ہیں۔ میں اس سلسلے میں NHA کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہم نے ان toll plazas کو بہت transparent طریقے سے advertise کیا، pre-bid conference کی اور میڈیا کے سامنے bids کو کھولا گیا۔ اس میں 4 toll plazas کی bids reserve price سے نیچے تھیں۔ 20 plazas میں ہماری آمدنی میں جو اضافہ ہوا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ 1.5 billion تھا۔ 2008-09 in 20 toll plazas سے ہمارا revenue بڑھ کر 10 billion ہو گیا ہے۔ ہماری motorways بھی FWO والوں کے پاس ہیں، ان کی بھی ہم نے international bidding کر دی ہے۔ جہاں سے ہمیں تقریباً پونے دو ارب روپے سالانہ آ رہے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم ایک دو مہینوں میں دے دیں گے۔ اس طرح revenue double ہو جائے گا۔ By June this year contracts of NLC & FWO ختم ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان کو already notices دے دیے ہیں۔ ان toll plazas کو بھی ہم open transparent auction کریں گے اور انشاء اللہ ہمارا یہ revenue بھی دوگنا ہو جائے گا کیونکہ roads maintenance کے لیے تقریباً 16 to 18 billion چاہیے ہوتا ہے اور آج کل جو ہم لوگ وصول کر رہے ہیں وہ بھی سینیٹ کی مہربانی ہے کہ ہمیں 26 toll plazas ملے ہیں ان کے revenues ملا کر آج ہم لوگ تقریباً 10 billion کما رہے ہیں۔

جناب چیئرمین: سینیٹر ہارون صاحب۔ اب اپوزیشن سے ایک سوال پوچھ لوں پھر آپ کی طرف آؤں گا۔ سینیٹر ہارون خان: جناب والا! میں محترم وزیر صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نو، دس مہینوں میں revenue اتنا بڑھا دیا لیکن 10 billion collect کرنے کے لیے اگر تین ارب ان کا خرچ ہو رہا ہے then I think there is something really wrong اور اس پر زیادہ emphasis کریں کہ contractors کو اگر دس ارب اکٹھا کرنے کے لیے تین ارب دینے پڑیں جبکہ دنیا میں کہیں بھی یہ equation نہیں بنتی ہے۔ ان کا زیادہ سے زیادہ پچاس کروڑ خرچ ہونا چاہیے۔

There is something wrong and he should look into this and he should tell this House that why is the collection expense so high?

ڈاکٹر ارباب عالمگیر خان: اگر آپ یہ expense calculate کریں تو یہ 15% بنتا ہے۔ اب جبکہ ہم نے  
 expense that is only 5% toll plazas out source کر دیے ہیں تو ان کا

جناب چیئرمین: پچھلے انہیں جواب دینے دیں۔

ڈاکٹر ارباب عالمگیر خان: یہ جو toll plazas ہیں۔۔۔۔۔

سینئر ہارون خان: میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے لکھا ہے یا پھر اس کو تبدیل کریں۔

جناب چیئرمین: ہارون صاحب جواب آنے دیں، پچھلے ان کو سن لیں۔

ڈاکٹر ارباب عالمگیر خان: ان toll plazas کی ہم نے automation بھی کرنی ہے، اس میں اس کی بھی  
 cost شامل ہے۔ FWO & NLC والوں کے پاس بھی ہیں وہاں بھی ہمیں بہت سی مشکلات ہیں۔ میں نے آپ کو 26  
 toll plazas کا بتایا، 26 toll plazas میں اگر ہم 1.5 billion بڑھا سکتے ہیں تو toll plazas 84 میں انشاء اللہ ہم 10  
 billion بڑھائیں گے لیکن ابھی جون کے مہینے تک ان کا contract موجود ہے، اس کے بعد باقی toll plazas بھی  
 ہمارے پاس آجائیں گے اور ان پر جو ہمارا خرچہ ہے پھر وہ نہیں ہوگا۔ وہ خرچہ آدھے سے بھی کم ہو جائے گا کیونکہ ہم  
 ان کو مکمل solution دے رہے ہیں پوری طرح out source کر رہے ہیں۔

جناب چیئرمین: مولانا عبدالغفور حیدری صاحب۔

سینئر مولانا عبدالغفور حیدری: جناب چیئرمین! وزیر موصوف نے بتایا ہے کہ ملک میں اتنے ٹول  
 پلازے ہیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان میں سے کتنے ٹول پلازے بلوچستان میں ہیں اور کون کون سی شاہراہوں  
 پر ہیں۔ بلوچستان آدھا پاکستان ہے ظاہر ہے کہ وہاں بہت بہترین سڑکیں ہوں گی اور پلازے ہوں گے، وہاں سے کتنی  
 وصولی ہوتی ہے تو اس حوالے سے میں متعلقہ وزیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے ٹول پلازے بلوچستان میں ہیں اور  
 کون سی شاہراہوں پر ہیں۔

ڈاکٹر ارباب عالمگیر خان: میرے پاس فہرست موجود ہے، دس منٹ میں، میں calculate کر کے ان  
 کو بتا دوں گا کہ بلوچستان میں ہمارے پاس کتنے toll plazas operational ہیں؟

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے، آپ calculate کر کے بتادیں۔ بادیانی صاحب۔

سینئر میر ولی محمد بادیانی: شکریہ جناب چیئرمین۔ میرے خیال میں بلوچستان میں کوئی ایسی سڑک نہیں  
 ہے جہاں کوئی working tool plaza ہو۔ وزیر صاحب کو زیادہ معلومات ہوں گی۔ جناب والا! میں وزیر موصوف  
 سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو سال سے National Highway Authority کے کام بند ہیں۔ اس پر action کیوں نہیں لیا  
 جا رہا۔

دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی tenders ہوئے خواہ باہر کے لوگوں کو دیے گئے ہیں یا مقامی لوگوں کو  
 ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن لوگ بہانہ کر کے کام چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔  
 ان پر جرمانہ کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا نہ کرے۔

ڈاکٹر ارباب عالمگیر خان: جناب چئیرمین! ہمیں بلوچستان میں کافی problems ہیں۔ سینیٹر صاحب کوئی چہن کی جو بات کر رہے ہیں تو میں ان کو بتا دوں کہ تین چار دنوں میں انشاء اللہ تعالیٰ وہاں پر کام شروع ہو جائے گا۔ وہ Asian Development Bank کا project تھا، وہاں پر جو پرائیوٹ ٹھیکیدار تھا اس کو ہم نے demobilize کر کے نکال دیا ہے نیا already contract دے دیا گیا ہے لیکن اس کی approval چونکہ منیلا سے آئی تھی اس لیے اس میں ایک دو مہینے لگ گئے ہیں۔ اب approval آگئی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اسی ہفتے اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ قلعہ سیف اللہ ٹروپ کے بارے میں، میں سینیٹر صاحب کو بتا دوں کہ وہاں بھی پچھلے ایک سال سے کام بند ہے اس کے متعلق بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے وہاں وہی contractor کام کرے گا جس کو contract ملا ہے۔ اس میں legal view آجاتا ہے کیونکہ already ان کو contract ملا ہوا ہے۔ ان کا بھی ہم نے منسوخ کر دیا ہے۔ کس منیلا چلا گیا ہے جیسے ہی منیلا سے آتا ہے میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسی ہفتے وہاں پر بھی کام شروع ہو جائے گا۔

جناب چئیرمین: ڈاکٹر عبدالملک۔

سینیٹر ڈاکٹر عبدالملک: جناب والا! بلوچستان میں تو ایک ہی کام ہو رہا تھا کہ تھوڑی بہت سڑکیں بن رہی تھیں۔ جب موجودہ حکومت آئی تو وہاں سڑکوں کے جتنے projects تھے ان کو stop کر دیا گیا ہے اور technically یہ دلیل دی جاتی ہے کہ وہاں پر مسئلہ ہے لیکن actually یہ ہے کہ حکومت نے funds stop کر دیے ہیں۔ فرض کریں گوادر۔ تربت، تربت۔ پچگور، پچگور۔ تورا، مجھے آپ کوئی ایک مسئلہ بتائیں کہ وہاں کوئی امن وامان کا مسئلہ ہے، کوئی دوسرا مسئلہ ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے funds روک لیے ہیں اور کام بند ہو گئے۔

جناب چئیرمین۔ ٹھیک ہے آپ نے information دے دی ہے کہ وہاں کام بند پڑا ہے۔ اگلا سوال ڈاکٹر

خالد محمود سومرو۔

49. \*Dr. Khalid Mehmood Soomro: (Notice received on 31-01-2009 at 09..07 a.m)

Will the Minister for Education be pleased to state the names of organizations/ institutions to which funds have been provided by H.E. C. during the last ten years indicating also the details of amount of funds provided in each case?

Mir Hazar Khan Bijarani: An amount of Rs. 95011.211 million has been provided to different Universities, Degree Awarding Institutes, Study Centres and Centres for Excellence by Higher Education Commission (HEC) and erstwhile University Grants Commission (UGC) during the last 10 years as per following details:

Rs. in million

Recurring	Developmeat	Total
-----------	-------------	-------

UGC (1998-2002)	7851.415	1169.486	9020.901
HEC (2002-2008)	46523.117	39467.193	85990.31
Total	54374.532	40636.679	95011.211

Names of institutes and details of funding (year-wise) to these institutes are at Annex-I.

(Annexure has been placed on the Table of the House as well as Library)

Mr. Chairman: Any supplementary?

سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: جناب والا! میں نے محترم وزیر موصوف سے یہ تفصیل پوچھی تھی کہ وفاقی وزارت کی طرف سے Higher Education Commission کی طرف سے جن اداروں سے تعاون کیا جاتا تھا، جتنی یونیورسٹیاں ہیں اس کی تفصیل مجھے دی گئی ہے۔ تین سالوں سے میں یہاں مسلسل یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اندرون سندھ کے جو ادارے ہیں ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور کو آپ نے 1999 اور 2000 میں چالیس ملین گرانٹ دی ہے۔ 1459 million میں سے اس یونیورسٹی کے لیے صرف چالیس ملین رکھے گئے۔ یہ زیادتی اور ظلم ہے۔ آگے چلیں۔ Engineering universities کے حوالے سے Quaid-e-Awam University Nawab Shah کو 29 million دیے گئے ہیں جبکہ total 424 million تھے۔ اندرون سندھ کی یہ ایک ہی یونیورسٹی نواب شاہ میں ہے اس کے ساتھ بھی صریحاً زیادتی کی گئی ہے۔ آگے چلیں۔ Other institutions میں Z . A . Bhutto Agricultural College Dhrki کو 131 million میں سے صرف سات ملین دیے گئے ہیں اور اس طرح یہ پورے دس سال کی تفصیل ہے۔ اندرون سندھ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ وزیر موصوف اس حوالے سے کچھ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آخر اندرون سندھ کے ان اداروں کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور حکومت کا ان کے لیے کوئی خصوصی شفقت کا پروگرام ہے؟

جناب غلام فرید کاٹھیا (وزیر مملکت برائے تعلیم): جناب والا! سینیٹر موصوف نے جو بات کی ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں مگر حکومت پاکستان کے لیے سب یونیورسٹیاں برابر ہیں اور جتنی allocations کو دی جاتی ہیں وہ ان کی requirements کے مطابق دی جاتی ہیں۔ یونیورسٹی جتنی demand کرتی ہے اس demand کے مطابق HEC، Finance Division سے پیسہ لیتی ہے اور جتنا پیسہ ملتا ہے، جو ان کی demand ہوتی ہے اس کے مطابق ان کو دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی discrimination نہیں ہے کہ فلاں یونیورسٹی سندھ میں ہے تو کم دو، بلوچستان میں ہے تو کم دو اور پنجاب میں ہے تو اس کو زیادہ دو۔ جتنی demand ان کی طرف سے آتی ہے ان کو وہ ملتی ہے۔

سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: جناب والا! میں ان تمام اداروں میں گیا ہوں۔ ان کی جو demands ہیں اس کے مطابق ان کو تعاون فراہم نہیں کیا جا رہا۔ وزیر موصوف چیک کر لیں۔ سندھ یونیورسٹی، مہران یونیورسٹی، قائد عوام یونیورسٹی، شاہ عبداللطیف یونیورسٹی اور IBA سکھر کی جو ڈیمانڈز آپ کے پاس ہر سال آتی ہیں قطعی طور پر ان کے مطابق تعاون نہیں کیا جا رہا۔ میں اس جواب سے مطمئن نہیں ہوں۔

میر ہزار خان بجا رانی (وفاقی وزیر تعلیم): جناب والا! میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہاں جن رقوم کی طرف اشارہ کیا ہے، انہوں نے صرف ایک سال 2000-1999 کے بجٹ کی گرانٹس کی figures quote کی ہیں حالانکہ ہر سال ان یونیورسٹیوں کو grants ملتی آئی ہیں۔ جیسے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی ہے 2000-1999 میں اس کو چالیس ملین گرانٹ دی گئی ہے۔ اس کے بعد 2001 میں چھتیس ملین ہے پھر 2002 میں سینتالیس ملین ہے۔ اس طرح سے ہر سال ان کو grants ملتی آئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں financial crunch رہا ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں جو grants ملتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس percentage کے حساب سے ان کی grants میں کمی بھی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی position improve ہوتی ہے انشاء اللہ ان کی total demands پوری کی جائیں گی۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یونیورسٹیوں کی total demands ان کو نہیں مل رہیں لیکن اس کی وجہ میں نے بیان کر دی ہے۔ کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہیں ہے کسی صوبے کے ساتھ، کسی یونیورسٹی کے ساتھ۔ یہ سارے قابل قدر ادارے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ پلے پھولیں اور ان کو ہم maximum possible grants دیتے رہیں تاکہ تعلیم پھیلے اور ہماری یونیورسٹیز بڑھتی رہیں۔

جناب چیئرمین: شکریہ۔ ڈاکٹر عبدالملک صاحب۔

سینیٹر ڈاکٹر عبدالملک: جناب! یہاں پر حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کو per student پچیس تا تیس ہزار روپے ملتے ہیں سال کے اور اسلام آباد میں جو per student ratio ہے وہ ایک لاکھ تیس ہزار سے ایک لاکھ چالیس ہزار تک ہے۔ جناب! اس طرح نہیں ہے۔ اس وقت بلوچستان کی تمام یونیورسٹیاں شدید بحران میں ہیں اور کم از کم 10 کروڑ روپے سے لے کر 50 کروڑ تک دو تین مہینے میں وہ بنکوں سے ادھار لے رہے ہیں۔ میر صاحب! آپ تو اس کو check کر لیں کہ ایک سٹوڈنٹ جو بلوچستان میں ہے اس کا expenditure تیس ہزار روپے ہے اور اسلام آباد میں کوئی ڈیڑھ لاکھ روپے ہے۔

Mir Hazar Khan Bijarani: Sir, the point is well taken.

انشاء اللہ اس کا بھی ہم ازالہ کریں گے اور جو انہوں نے ابھی ایک comparative figure دی ہے، میں اس کو بھی study کرالیتا ہوں لیکن we have all respect and regard for the universities in Balochistan. ہمارا ایک سب سے پسماندہ صوبہ ہے اور ایک لحاظ سے میرا اپنا تعلق بھی اس صوبے سے ہے تو انشاء اللہ ہم کوشش کریں گے کہ preference کے حساب سے ہم انہیں زیادہ فنڈز بھی دیں لیکن

It will all depend upon the economic and the financial position of the country.

جناب چیئرمین: مند و خلیل صاحب۔

سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: میرا سوال بھی اسی مسئلے سے ہے۔ بلوچستان کو آپ دیکھیں۔ 1999-2000 میں 19 ملین، تمام صوبے کی یونیورسٹی ہے، اسے صرف 19 million development fund دیا گیا۔ پھر 2001-2000 میں وہ بھی کم ہو کر 16 million development کے لئے دیے گئے۔ 2001-2002 میں پھر جناب والا! 24 million دیئے گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ہماری یونیورسٹی finance کی وجہ سے بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ جیسے ہمارے حالات اور وسائل ہیں اس کے حوالے سے میں وزیر صاحب سے یہ یقین دہانی چاہوں گا کہ وہ ہمارے صوبے کی اس یونیورسٹی کے فنڈز خصوصی طور پر raise کریں کیونکہ اس سے پہلے اگر تمام details دیکھی جائیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام سالوں میں اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مہربانی جناب۔

جناب چیئرمین: شکریہ۔ جی منسٹر صاحب۔

میر ہزار خان بھارانی: جناب! نظر انداز کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بالکل agree کرتا ہوں کہ بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب یہاں تشریف لائے تھے۔ ان کی ملاقات میرے ساتھ بھی ہوئی، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی ہوئی۔ وزیر اعظم نے انہیں assure کیا تھا اور میں نے بھی assure کیا تھا کہ ہم بلوچستان یونیورسٹی کی requirements کا مکمل طور پر خیال رکھیں گے اور ان کو preference کی بنیاد پر انشاء اللہ ان کی جو immediate demands ہیں وہ پوری بھی کریں گے اور اس سلسلے میں جو ان کی immediate requirements تھیں وہ ہم نے پوری کی بھی ہیں اور انہیں وہ funds release کر بھی دیئے گئے لیکن آئندہ انشاء اللہ جیسے ہمارے سینیٹر صاحبان نے یہاں point rise کیا ہے، انشاء اللہ

we will try our level best to fulfill all the requirements of the University of Balochistan.

Mr. Chairman: Thank you. Syed Javed Shah sahib.

سینیٹر سید جاوید علی شاہ: شکریہ جناب چیئرمین۔ جناب! میں آپ کی وساطت سے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مختلف صوبوں کی مختلف علاقوں کی ایک value ہوتی ہے جس کے تحت منسٹریاں یا حکومتیں انہیں مد نظر رکھ کر ان کی طرف بھرپور توجہ دیتی ہیں۔ پنجاب کے ایک کونے کھدرے میں ایک علاقہ ہے جسے ہم سرانیکی علاقہ کہتے ہیں، جس میں ملتان آتا ہے۔ وہاں پر بد قسمتی سے پورے ریجن میں ایک یونیورسٹی ہے۔ بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی۔ میں وزیر موصوف سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے لئے last year کتنے funds دیئے گئے ہیں اور کیا آنے والے سالوں میں وہاں پر یہ کچھ دینا چاہیں گے یا نہیں؟

میر ہزار خان بھارانی: جناب! جو تفصیل ہم نے provide کی ہے۔ اس میں بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی کے سارے funds سینٹ کے ممبرز صاحبان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ساری تفصیلات وہاں موجود ہیں۔ انشاء اللہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے۔ ساری یونیورسٹیوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی requirements کے مطابق اپنے budgetary position کو مد نظر رکھتے ہوئے اس percentage کے ساتھ انہیں funds provide کریں اور جیسے ہی ہماری financial position improve ہوگی انشاء اللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم ان کی requirements کے funds بھی provide کر دیں اور وہاں پر مزید development کے لئے

اقدامات بھی کریں۔ ملتان کے حوالے سے میں یہ بھی ان کے knowledge میں لاتا چلوں کہ وہاں پر ایک اور یونیورسٹی بھی انشاء اللہ بہت جلد قائم ہونے والی ہے اور اس علاقے کی یہ شکایت بھی انشاء اللہ دور ہو جائے گی۔

جناب چیئرمین: ہارون صاحب۔

یونیورسٹی ہارون خان: جناب! میرا سوال یہ ہے کہ چار سال پہلے جب University Grants Commission تھا تو on the average it is likely over two billion rupees per year. اس کے بعد جب Higher Education Commission آیا تو چھ سال میں 86 billion، it is an average of 14 billion per year. over میرا سوال یہ ہے کہ اس 86 billion کے بعد how are these universities different today than they were 6 years ago.

Mr. Chairman: Thank you. How these universities are different today than yesterday after spending so much money?

یونیورسٹی ہارون خان: 86 million آپ نے HEC کے اوپر چھ سال میں خرچ کئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے چار سال میں UGC کے اوپر صرف 9 million خرچ کئے تھے that is an average of two million per year. بجائے آپ نے 14 million per year خرچ کئے ہیں چھ کے لئے تو universities میں کیا

change آیا ہے؟ What is the net result?

میر ہزار خان بھارانی: جناب! میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ HEC کو پچھلے کئی سالوں میں کافی grants دی گئی ہیں اور وہ ان universities کو ٹرانسفر ہوئی ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر جو grants آئی تھیں وہ سکالرشپ کے حوالے سے ہیں اور فارن سکالرشپس پر جو students یہاں سے گئے ہوئے ہیں maximum amount وہاں لگا ہے۔ Universities کے standard کو بھی بہتر بنانے کے لئے اقدامات کئے گئے ہیں لیکن میں یہاں یہ suggest کروں گا کہ اگر ہمارے یونیورسٹی صاحبان چاہیں تو ہم HEC کی طرف سے انہیں اس پر ایک مکمل بریفنگ دینے کے لئے تیار ہیں، جس سے ساری factual position ان کے سامنے آ جائے گی۔

جناب چیئرمین: محترمہ فرح عاقل۔

یونیورسٹی فرح عاقل: شکر یہ جناب چیئرمین۔ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں بھی دیکھا اور بولنے کا موقع دیا۔ میں موٹروے کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھی مگر آپ نے اس وقت مجھے ignore کر دیا۔ مگر شکر یہ کہ آپ نے پھر بھی مجھے اجازت دی۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ universities کو equally treat کیا جاتا ہے اور funds دیئے جاتے ہیں۔ ابھی میرے خیال میں منسٹر صاحب کی نظر سے بھی گزرا ہو گا کہ پچھلے دنوں جامعہ کراچی کی ایک طالبہ فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی۔ بہت عرصے سے ان کی یہ demand ہے کہ وہاں پر بسیں بہت کم ہیں۔ ایک ہزار طالبات کے لئے ایک بس ہے۔ آپ بتائیں کہ ایک بس میں ایک ہزار طالبات کس طرح پوری آسکتی ہیں۔ وہاں پر صرف یہ حادثہ نہیں ہوا۔ وہاں پر پچھلے کئی سالوں میں میرا خیال ہے کہ یہ دو incident ہے۔ وہاں پر یہ ہو رہا

ہے اور death ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پچپاں جلدی میں اترتی ہیں اور بس چلا دی جاتی ہے تو یہ بہت برے حالات ہیں۔

Please آپ اس کا نوٹس لیں۔ Thank you.

میر ہزار خان بھارانی: یہ تو ایک حادثے کی بات ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ نہ تو یونیورسٹی کا کوئی قصور ہے اور نہ اس میں منسٹری کا کوئی قصور ہے۔

سینیٹر فرح عاقل: اگر وہاں پر بسیں زیادہ ہوتیں تو یہ حادثات نہ ہوتے۔ یہ پہلا نہیں دسواں حادثہ ہے۔  
میر ہزار خان بھارانی: میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جو بسیں ہیں یونیورسٹی کی، وہ یونیورسٹی خود ہی خرید لیتی ہے اور maintenance بھی وہی کرتے ہیں۔ ہم نے specifically یہ directives بھی دیئے ہیں اور تمام یونیورسٹیوں اور کالجوں سے information مانگی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ان کے پاس students کے ratio کے حوالے سے کتنی بسیں موجود ہیں اور آئندہ ان کا کیا پروگرام ہے؟ میں specifically اس پر توجہ دے رہا ہوں۔ ہم بسوں کی تعداد کو مزید بڑھائیں گے تاکہ students کے لیے maximum possible سہولت فراہم کی جاسکے۔ جہاں تک total students کا تعلق ہے تو تمام students buses میں سواری نہیں کرتے کیونکہ بہت سارے اپنی private conveyance کے ذریعے universities and colleges آتے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ number of buses ہوں تاکہ یہ requirement پوری ہو سکے اور students کے لیے maximum سہولت ہو سکے۔

جناب چیئرمین: عباس خان صاحب۔

سینیٹر عباس خان آفریدی: شکریہ چیئرمین صاحب کہ آپ نے موقع دیا۔ میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فانا میں کب university بنے گی اور اس کا کیا plan ہے اور کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔

میر ہزار خان بھارانی: یہ ایک قراقرم یونیورسٹی کا پلان ہے جو۔۔۔۔۔ Sorry، sorry نہیں انشاء اللہ فانا کے لیے بھی عنقریب ایک پلان بنائیں گے۔

جناب چیئرمین: ڈاکٹر کھٹول صاحب۔

سینیٹر ڈاکٹر کھٹول: میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان چاروں صوبوں میں مختلف یونیورسٹیوں کو جب اتنے funds and grants دے رہی ہے تو کیا مجھے یہ بتائیں گے کہ صوبہ سندھ میں خاص طور پر جو کراچی یونیورسٹی ہے، NED University ہے، داؤد کالج ہے، ان میں اندرون سندھ طلبہ کے admissions پر کیوں ban ہے۔

میر ہزار خان بھارانی: یہ واقعی ایک تشویش کی بات ہے کیونکہ ماضی میں ایسی کوئی پالیسی نہیں تھی اور اندرون سندھ کے جتنے طلبہ تھے انہیں کراچی یونیورسٹی اور مختلف یونیورسٹیوں میں admissions ملا کرتے تھے۔ میں خود اندرون سندھ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے کراچی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے وہاں پر پالیسی تبدیل کی گئی ہے۔ We will definitely look into this and I think this is a very valid

question. اس کو ہم سندھ حکومت کے ساتھ take up کریں گے اور یقیناً اس کا ازالہ کرائیں گے کیونکہ کراچی سندھ کا capital ہے۔ جتنا حق کراچی کے شہریوں کا کراچی کی یونیورسٹیوں پر ہے اسی طرح اندرون سندھ کے شہریوں کا بھی حق بنتا ہے اور اس قسم کی تفریق میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صوبے میں ہونی چاہیے۔ یونیورسٹیاں سب کے لیے کھلی ہونی چاہئیں اور everybody should be allowed to benefit from that.

(مداخلت)

سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: جناب والا! اس پر ہم بات کریں گے۔

سینیٹر ڈاکٹر کھٹول: جناب والا! کراچی یونیورسٹی، Dow Medical College، NED University میں صرف اندرون سندھ کے طلبہ کے لیے پابندی نہیں ہے بلکہ اس میں پھیلے بلوچستان، آزاد جموں کشمیر، پنجاب کی seats بھی ہوا کرتی تھیں اور فنانس کی seats ہوا کرتی تھیں، remote areas کی seats الگ ہوا کرتی تھیں۔ ان یونیورسٹیوں میں طلبہ کے لیے جو ہاسٹل بنے ہوئے تھے وہ بھی توڑے گئے ہیں اور کوئی اگر admission کا فارم لینے جاتا ہے تو وہاں پر کچھ organizations ایسی ہیں جو ڈنڈوں سے سر پھاڑ کر ان students کو بھگا دیتی ہیں۔ یہ کیا ظلم ہے؟

سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: اس پر ہم سب بات کریں گے، اس کے بعد وزیر صاحب جو بھی جواب

دیں۔

(مداخلت)

جناب چیئرمین: ایسا کرتے ہیں کہ اس پر آپ کوئی Adjournment Motion لے آئیں۔ ایک منٹ ایک منٹ، مندوخیل صاحب please بیٹھیے میں دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر خالد سومرو صاحب آپ Please بیٹھ جائیے۔ وزیر صاحب کو پہلے جواب دینے دیں۔

(مداخلت)

میر ہزار خان بھارانی: میرے خیال میں جناب! میں جو بات کروں گا سب اس سے مطمئن ہوں گے۔

Mr. Chairman: Let him answer, please let him answer.

ایک منٹ ٹھہر جائیے مندوخیل صاحب، پہلے وزیر صاحب کو جواب دینے دیجیے۔ مندوخیل صاحب! Please تشریف رکھیے۔

(مداخلت)

جناب چیئرمین: اس طرح تو ہر آدمی express کرے گا۔ آپ بیٹھ جائیے۔ پہلے جواب سن لیجیے۔ آپ

ذرا سن لیجیے۔

Please sit down, this is a Question Hour, Question has come, let the Minister answer it and already more than one hour has passed. Doctor sahib please sit down, let the Minister answer the question. Minister sahib please answer the question.

میر ہزار خان بھارانی: اگر آپ میری گزارش سن لیں تو آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ واقعی ایک burning issue ہے اور باعث تشویش بات بھی ہے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس issue پر آپ سینیٹ کی ایک کمیٹی بنائیے جو اس کو consider بھی کرے اور اپنی recommendations بھی دے پھر اس کی روشنی میں ہم اس issue کو resolve کریں گے۔

جناب چیئرمین: دیکھیں، جواب آگیا نا۔ تھل سے کام لیجیے۔ O.K. the matter is referred to the Standing Committee on Education. The Question Hour is over, the remaining questions and their printed replies placed on the table of the House shall be taken as read.<sup>1</sup>

51. \*Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi: (Notice received on 31-01-2009 at 11:35 a.m.)

Will the Minister for Environment be pleased to state:

- (a) the number of seminars/workshops/symposiums arranged by the Ministry on environmental pollution during the last three years; and
- (b) the details of recommendations made therein and the implementation made so far?

Mr. Hameed Ullah Jan Afridi: (a) The following seminars/workshops/symposiums were organized by the Pakistan Environmental Protection Agency on environmental pollution during the last three years.

S.No.	Title
1.	World Water Day.
2.	World Forest Day.
3.	Corporate Summit on Climate Change - LEAD.
4.	Training Workshop on Emergency Preparedness & Response for Water and Sanitation.
5.	World Wetland Fiesta - 2009.
6.	GEF National Dialogue.
7.	CDM Capacity Building Project Launching Ceremony.
8.	Regional Conference on Climate Change.
9.	Solarization of Outdoor Lighting System of ENERCON Building.
10.	Seminar on Vehicular Emission Control and Sustainable Transport.
11.	Seminar 25/75 Industrial Environment Improvement Plan.
12.	Seminar on Genetically Modified Organisms (GMOs) Application & Implication.

<sup>1</sup> [The Question Hour is over, the remaining questions and their replies placed on the table of the House shall be taken as read]

13. Training for Heads of Institutional Biosafety Committees.
14. Development of National Biosafety Roadmap in Pakistan.
15. Seminar on "Say No to Plastic Bags".
16. An Introductory Seminar on Self Monitoring and Reporting Program (SMART).
17. World Habitat Day.
18. Seminar on Pakistan Green Seal Programme.
19. National Sustainable Development Strategy.

(b) The details of recommendations and implementation of above mentioned seminars/workshops/symposiums are at Annex-I.

(Annexure has been placed on the Table of the House as well as Library)

52. \*Mr. Muhammad Talha Mahmood: (Notice received on 02-02-2009 at 08:45 a.m.)

Will the Minister for Overseas Pakistanis be pleased to state:

- (a) the details of agreements signed by the Government of Pakistan for export of manpower during the last two years indicating also the names of countries with which those agreements have been signed; and
- (b) the number of persons sent / to be sent for employment abroad under the said agreements?

Syed Khurshed Ahmed Shah: (a) No agreement was signed with any country during the last two years for export of manpower from Pakistan. However, in continuation of existing agreement, an Additional Protocol has been signed with the Government of Qatar on 4-5-2008 and the MOU with Government of South Korea was extended for further two years on 26-6-2008.

(b) These MOUs are signed as agreement only for export of manpower from Pakistan and no specific number of persons are mentioned in the Agreements/MOUs.

However, under the umbrella of these agreements, as per figures provided by Bureau of Emigration and Overseas Employment, 16029 number of Pakistani workers proceeded abroad during 2007-2008 as follows:—

Manpower proceeded to Qatar	=	15177
Manpower proceeded to Korea	=	852
Total	=	16029

53. \*Mr. Wasim Sajjad: (Notice received on 02-02-2009 at 15:55 p.m.)

Will the Minister for Law and Justice be pleased to state:

- (a) the names of the Chief Justice and Judges of the Supreme Court of Pakistan and all the High Courts including Islamabad High Court indicating also the dates of their retirement; and
- (b) whether there is any proposal under consideration of the Government to raise the age of retirement of the Honourable judges of the superior courts?

Minister for Law and Justice: (a) The names of the Chief Justice and Judges of the Supreme Court of Pakistan and all the High Courts indicating their date of retirement is Annexed.

(b) Presently, no proposal to raise the age of retirement of the hon'ble Judges of the Superior Courts is under consideration by the Government.

54. \*Hafiz Rasheed Ahmad: (Notice received on 03-02-2009 at 11:25 a.m.)

Will the Minister for Social Welfare and Special Education be pleased to refer to the question No.108 replied on 30-01-2009 and state the details of the proposed project to be started for disabled children in Mohmand Agency?

Ms. Samina Khalid Ghurki: A National Programme on Special Education is under consideration at Directorate General of Special Education to establish more Special Education Centres including Mohmand Agency subject to the approval by appropriate forum and budget allocation for implementation. The proposal has been forwarded to the Planning Commission.

55. \*Mr. Muhammad Talha Mahmood: (Notice received on 04-02-2009 at 08:45a.m.)

Will the Minister for Communications be pleased to state the amount allocated for construction / repair of motorways and national highways in the country in the budget 2007-08; indicating also the names and locations of the said motorways and national highways?

Dr. Arbab Alamgir Khan: An amount of Rs.41,493.54 Million was allocated during the Financial Year 2007-08 for construction and repair of Motorways and National Highways under the control of Ministry of Communications/NHA. The break-up is given as under:—

Activity	Rs in Million
Construction	33,080.00
Maintenance	8,413.54
Total:-	<u>41,493.54</u>

The names/locations of these Motorways & Highways are attached as annex-A & B respectively.

56. \*Hafiz Rasheed Ahmad: (Notice received on 04-02-2009 at 13:40 p.m.)  
Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade F.G. Girls Model School No.4, G-7/2, Islamabad to Higher Secondary level, if so, when?  
Mir Hazar Khan Bijarani: There is no proposal under consideration of the Government to up-grade F.G Girls Model School No.4 G-7/2, Islamabad to Higher Secondary level.

57. \*Hafiz Rasheed Ahmad: (Notice received on 04-02-2009 at 13:40 p.m.)  
Will the Minister for Social Welfare and Special Education be pleased to state:  
(a) the number of ex-cadre posts in the Ministry and its attached departments;  
(b) the names, designation, BPS, length of service in the present scales and place of domicile of the persons working against the said posts;  
(c) whether it is fact that there is no promotion channel for the incumbents of the said posts; and  
(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to evolve a promotion channel for the said persons, if so, its details?

Ms. Samina Khalid Ghurki: (a) There are 1278 ex-cadre posts in Ministry of Social Welfare and Special Education and its attached department as per detailed below:—

S.No.	Name of Department	Sanctioned Posts	In Position
1.	Main Ministry	134	120



stakeholders like Home Department, Government of Punjab, or Ministry of Interior may be consulted in this regard”.

60. \*Prof. Khurshid Ahmed: (Notice received on 09-02-2009 at 11:00 a.m.)

Will the Minister for Education be pleased to state the time by which Elections will be held after restoration of students unions in the educational institutions?

Mir Hazar Khan Bijarani: No time frame for holding of elections after ”Restoration of Students Unions” can be given because all institutions of higher education and universities will have to be consulted. Besides, consultation with all the 4 provinces has to be made and which is currently being done. Since a Cabinet Committee for this propose was formed which already had two meetings and will also meet again to sort out the modalities of the Bill which has been drafted for enactment by the Law Division. There is lot of work still to be done to restore the students Unions. Therefore no time frame can be given.

61. \*Dr. Muhammad Ismail Buledi: (Notice received on 19-02-2009 at 09:00 a.m.)

Will the Minister for Law and Justice be pleased to state:

- (a) the number of cases of murder, decoities and kidnapping disposed of by the four High Courts of the country during the last five years indicating also the number of cases in which the culprits were convicted; and
- (b) the number of such cases pending in those courts?

Minister for Law and Justice: According to the information received from Peshawar High Court the required data of cases is as under:—

Category of Cases	Pending	Institution	Disposed of	Balance
Death Appeals	41	213	193	61

Life Imprisonment	335	965	840	460
Criminal Appeal Short Sentence	14	739	714	39
Criminal Appeal (ATC)	0	136	86	50

---

Information from Lahore High Court, High Court of Sindh and High Court of Balochistan is awaited.

62. \*Dr. Muhammad Ismail Buledi: (Notice received on 20-02-2009 at 09:10 a.m.)

Will the Minister for Ports and Shipping be pleased to state the time by which shipping will be started at Gawadar port?

Mr. Babar Khan Ghouri: Regular shipping at Gwadar Port has already commenced w.e.f. 22nd December, 2008.

63. \*Dr. Muhammad Ismail Buledi: (Notice received on 20-02-2009 at 09:10 a.m.)

Will the Minister for Communications be pleased to state:

- (a) the number of Motorway Police personnel working in Balochistan; and
- (b) the names and place of domicile of the said personnel working at Gwadar?

Dr. Arbab Alamgir Khan: (a) 183 uni-formed and 74 non-uniformed employees are working in National Highways & Motorway Police (NH&MP) Balochistan [Annex-I & II].

(b) 118 uni-formed and 19 non-uniformed personnels are working at Gwadar and their places of posting are Annexed-III & IV.

64. \*Dr. Safdar Ali Abbasi: (Notice received on 31-03-2009 at 310309)

Will the Minister for Law and Justice be pleased to state the names of judges in the Supreme Court of Pakistan and all the High Courts in the country in order of their seniority indicating also the dates of their appointment to the respective court and dates of retirement according to the following break-up:—

- (i) the restored judges as on 16th March, 2009;
- (ii) the Judges who were reinstated and took oath;
- (iii) the Judges who took oath under the PCO of 3rd November, 2007; and
- (iv) the Judges who took oath after the restoration of the Constitution on 15th December, 2007?

Minister for Law and Justice: (i) The following deposed Judges of the Superior Courts have restored on 16th March, 2009 :—

65. \*Mr. Sardar Ali Khan: (Notice received on 10-04-2009 at 11:55 a.m.)

Will the Minister for Communications be pleased to state the present status of the dual carriage way from Hassanabdal to Mansehra?

Dr. Arbab Alamgir Khan: National Highway Authority (NHA) has planned construction of Hassanabdal - Mansehra 4-lane Expressway (E-35) on a new alignment through Asian Development Bank's financial assistance (loan). Alignment of Expressway (E-35) has been finalized and PC-1 of the project is being prepared.

10. Mr. Muhammad Talha Mahmood: (Notice received on 11-02-2009 at 09:10 a.m.)

Will the Minister for Communications be pleased to state:

- (a) the names and location of national highways and motorways constructed or repaired during the last ten years indicating also the amount spent and name of contractor in each case; and
- (b) whether it is a fact that cost of some of the said projects was revised and increased, if so, the amount increased in each case?

Reply not received.

11. Prof. Khurshid Ahmed: (Notice received on 10-04-2009 at 10:50 a.m.)

Will the Minister for Labour and Manpower be pleased to state:

- (a) the names of projects and schemes launched for welfare of Workers from Workers Welfare Fund during the last ten years;
- (b) the number of beneficiaries of each of those projects/schemes; and
- (c) the steps proposed to be taken for effective use of WWF?

Syed Khursheed Ahmed Shah: (a) and (b) The names of projects and schemes launched for welfare of workers from Workers Welfare Fund and number of beneficiaries of those projects/ schemes during the last ten years is Annexed at 'A'.

(c) The Governing Body of WWF has proposed following steps for effective use of WWF :

- Construction of Integrated Housing Schemes within 10 KM radius of Industrial establishments with following facilities:—

- \* Housing units
- \* Hospitals
- \* Intermediate colleges

- Construction of Burn & Trauma Centres & Paramedic & Nursing Schools.
- Up-gradation of 35 Secondary Schools to Intermediate level.
- Increase in rate of Marriage Grant from Rs.50,000 to Rs.70,000.

12. Prof. Khurshid Ahmed: (Notice received on 10-04-2009 at 10:50 a.m.)

Will the Minister for Labour and Manpower be pleased to state:

- (a) the details of contribution to workers welfare board during the last 10 years with year-wise break-up;
- (b) the details of amount transferred to that board during that period with year-wise break-up; and
- (c) the details of amount spent by that board during the said period with year-wise break up?

Syed Khursheed Ahmed Shah: (a, b and c) The details of contribution made, amount transferred to and amount spent by the Workers Welfare Fund during the last 10 years with year-wise break-up are enclosed at Annex-A.

#### Leave of Absence

جناب چیئر مین: اب leave applications لے لیتے ہیں۔ جناب مولا بخش چانڈیو ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ 22 اپریل کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے؟

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئر مین: محترمہ شیرالہ ملک -----

(مداخلت)

جناب چیئرمین: ذرا Please order in the House. please بیٹھ جائیے وزراء صاحبان۔ قائد ایوان آپ تمام وزراء صاحبان کو بٹھائیے۔ وزراء صاحبان please بیٹھیے۔ خورشید شاہ صاحب! please آپ بھی بیٹھ جائیے۔ I request everyone to be seated. Thank you.

محترمہ شیر الہ ملک ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ 17 اپریل کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکی تھیں اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے؟

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین: جناب مشاہد اللہ خان نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ 23 اور 24 اپریل کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے؟

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین: جناب محمد جہانگیر بدر ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ 20 اپریل کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے؟

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین: جناب بابر خان غوری نے اطلاع دی ہے کہ کراچی میں پہلے سے طے شدہ مصروفیات کے باعث وہ آج مورخہ 24 اپریل کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ جی قائد ایوان صاحب۔ زاہد صاحب پلیز بیٹھ جائیے اس کے بعد آپ کا کلتہ لے لیں گے۔ آپ ایک منٹ کے لیے بیٹھیے۔

#### Motion for Suspension of Rule 120

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari (Leader of the House): Thank you Mr. Chairman. Mr. Chairman, I intend to move a resolution regarding the constitution of the Standing Committee. My request is that the provision of Rule 120 may kindly be suspended and I may be allowed to move the resolution.

Mr. Chairman: O.K. I put the motion to the House.

(The motion was carried)

#### Motion for Nomination of Senators in Standing Committees

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: This House authorizes the Chairman Senate to fill casual vacancies in all the committees including the functional, standing and finance committees of the Senate and make such changes therein as may be required and further authorizes him to arrange fresh elections to the chairmanship of the above committees as soon as possible. The Chairman, in filling up the vacancies, making

changes therein shall act in consultation with the Leader of the House, Leader of the Opposition, Parliamentary Leaders of the other political parties/groups or independent members, keeping in view the choices of the new elected Senators.

Mr. Chairman: This is an agreed resolution. I formally put it before the House.

(The motion was carried)

Mr. Chairman: The Resolution is adopted. Yes, Zahid Khan sahib.

سینیٹر زاہد خان: PIA کا crisis ابھی چل رہا ہے، پائلٹوں نے جو ہڑتال کی تھی، جس کا ذکر آپ سے کیا تھا۔ آپ نے قائد ایوان سے کہا تھا کہ وزیر دفاع کو کہیں کہ وہ ہاؤس میں آئیں اور اس کا جواب دیں لیکن ابھی تک تو وزیر دفاع ایوان میں نہیں آئے ہیں۔ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئے ہیں اب تک اور کیوں اس مسئلے کو delay کیا جا رہا ہے۔

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ بخاری صاحب۔

Senator Syed Nayer Hussain Bokhari: Sir, the issue has been resolved.

اور ابھی نیشنل اسمبلی بھی چل رہی ہے۔

جناب چیئرمین: اچھا ابھی نیشنل اسمبلی بھی چل رہی ہے۔

Syed Nayer Hussain Bokhari: The pilots issue has been resolved sir.

اس پر strike کھل call off ہو گئی ہے اور the Minister was out of the country.

جناب چیئرمین: نہیں، زاہد صاحب کا سوال ہے Point of order پر کہ وہ آکر brief کرتے، بتاتے۔ وہ کیوں نہیں آئے ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے۔ اس کا آپ جواب دیجئے کہ کس term کے اندر، اگر strike call off بھی ہو گئی ہے؟ What are the terms on the basis of which the strike has been called off? یہی چاہتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے ان کو آپ Monday کو بلا لیں۔ جی میاں صاحب۔

سینیٹر میاں رضا ربانی: Monday کو Minister of Defence آئیں گے۔ میری آپ کے توسط سے Leader of the House سے ایک گزارش ہے کہ وہ ان کو یہ بھی بتائیں تاکہ وہ Monday کو prepare ہو کر آسکیں کہ PIA کے pilots کی پیملے ہی بہ نسبت دوسرے اپنے ملازمین کی تنخواہ اور بہت ساری مراعات تھیں اور ان کی تنخواہ کا package آسمان کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اب اگر ان کی تنخواہ میں اضافہ جیسا کہ کچھ اخبارات میں آیا ہے پچیس فیصد طے ہوا ہے کہ ہو گا تو یہ discrepancy ہے۔ وہاں پر دیگر چھوٹے ملازمین ہیں مثلاً Cabin crew ہے، اس کے علاوہ جو دیگر وہاں traffic کے لوگ ہیں ان کی تنخواہوں کے لیے جب بات کی گئی تھی تو PIA کی management نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم خسارے میں ہیں۔ اب گرانوں نے ان کی تنخواہوں میں اضافہ قبول کر لیا ہے تو کیا PIA کی management corresponding increase دیگر چھوٹے ملازمین کی تنخواہوں میں

بھی کرنے کے لیے غور کر رہی ہے یا پھر وہ ملازمین بھی strike پر جائیں اور پھر PIA management ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرے گی۔

جناب چیئرمین: میرا خیال ہے یہ بڑی legitimate and valid request and demand ہے تو جب Defence Minister صاحب آئیں تو fully prepare ہو کر آئیں تاکہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کے بارے میں honourable member should be satisfied. 'Thank you. جی ڈاکٹر صفدر صاحب پہلے شیرانی صاحب بیان کر لیں پھر آپ کا point لے لیں گے۔

سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی: جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کی توجہ قاعدہ 216 کے تابع قاعدہ 229 کی ذیلی شق تین کی جانب مبذول کرواؤں گا کہ یہاں جو کاغذات رکھے جاتے ہیں اور اس میں جو سوالات کا منسلک ہوتا ہے وہ یا تو ہوتا ہی نہیں ہے یا اگر ہوتا ہے تو انگریزی میں ہوتا ہے جبکہ ضروری یہ ہے کہ انگریزی اور اردو دونوں میں ہونا چاہیے۔ ہم نے خود لکھ کر دیا ہے کہ ہمیں تمام سرکاری کاغذات اردو میں دیے جائیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو منسلک ہیں وہ یا تو انگریزی میں ہیں یا بالکل سرے سے اس میں موجود ہی نہیں ہیں۔ اس کارروائی کے انضباط کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا کہہ دیں۔

Mr. Chairman: The Secretariat is directed to place all the papers in Urdu also in future. جی ڈاکٹر صاحب۔

سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جناب یہ Question No. 53 آیا نہیں، اس میں مجھے کچھ factual error نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ سے بھی related ہے۔

جناب چیئرمین: کونسا Question ہے؟ I hope the Minister has not gone away. سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: نہیں Sir، سوال نہیں ہے بس آپ ذرا اس کو correct کروادیں تو بہتر ہوگا۔

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے بتا دیجئے۔ سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: یہ Question No. 53 ہے، وسیم سجاد صاحب والا ہے۔ اس میں باقی جو لسٹ دی گئی ہے اس میں تو مجھے صحیح نظر آ رہا ہے لیکن جو High Court of Sindh کی لسٹ ہے اس میں جو دو justices restore ہوئے تھے لگتا ہے ان کا نام miss ہو گیا ہے۔

جناب چیئرمین: کن کا جناب؟ سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جسٹس مشیر عالم اور جسٹس مقبول باقر صاحب۔ جناب چیئرمین: اچھا ٹھیک ہے۔

سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: ان کا نام میرے خیال میں چیف جسٹس کے بعد آنا چاہیے۔ Mr. Chairman: Justice Mushir Alam is the senior punitive judge right now.

سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: اچھا، وہی میرا خیال تھا کہ یہ دو نام miss ہو گئے ہیں۔ یہ ایک factual error آگیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو توجہ دلاؤں۔ اگر آپ secretariat کو کہہ دیں کہ وہ correct کر دیں جناب۔

Senator Wasim Sajjad (Leader of the Opposition): There is no such thing in violation, it needs no review.

یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو درست کر کے next rota day پر لایا جائے۔

Mr. Chairman: Ministry of Law سے additional information will be taken on the basis of Point of order that has been raised by Dr. Abbasi.

Senator Wasim Sajjad: And it may be brought on the next rota day. یہ تو صحیح

بات ہے جی۔

جناب چیئرمین: نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ I also know that Justice Mushir Alam is the Senior punitive judge right now. I think he is also an Acting Chief Justice. غلطی ہو گئی

جی۔

سینیٹر حاجی محمد عدیل: جناب مجھے بھی ایک لمحہ دیتے۔ آپ کی توجہ چاہیے۔  
جناب چیئرمین: ضرور، ضرور حاجی صاحب۔

Point of Order: Re: Appointment of an Administrator in a Leasing Company

سینیٹر حاجی محمد عدیل: میں جناب بڑے important مسئلہ پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے یہ اجلاس شروع ہوا اس سے پیشتر ایک motion پیش کی ہے کہ ایک leasing company نے پاکستان کے عوام کے اربوں روپے ہارپ کر لیے ہیں اور وہ بے چارے سڑکوں پر گھوم رہے ہیں۔ ایک administrator مقرر ہو گیا ہے پانچ لاکھ روپے تنخواہ پر۔ Leasing company کا نام Nator Lease and Refinance Company ہے۔ ہمارے صوبے کے سو families کے ان کے پاس پڑے ہیں۔ اب 22 کروڑ روپے ڈھائی سو families کے ان کے پاس پڑے ہیں۔ اب Security and Exchange والوں نے پانچ لاکھ روپے ماہوار پانچ لاکھ روپے مقرر کیا ہے۔ گاڑی، بنگلہ سب کچھ ان کو دے دیا لیکن وہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ ان کو installment ملتی ہے نہ اپنے پیسے واپس ملتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا scandal ہے اور اس پر اگر State Bank توجہ نہیں دے گا، ہماری Finance Ministry توجہ نہیں دے گی، صدر پاکستان تک درخواستیں دی جا چکی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یا تو مجھے اس مسئلہ پر تفصیلی بولنے کا موقع دیں یا میری یہ درخواست کسی فنانس کمیٹی کو refer کریں تاکہ ان لوگوں کا کیس میں پیش کر سکیں۔ دیکھیں جی یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ جب پیسے ڈوب رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم شور مچاتے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں۔ جب ڈوب جاتے ہیں تو پھر اس وقت State Bank کی طرف سے statement آتی ہے اب پانچ لاکھ روپے ماہوار پانچ لاکھ روپے Administrator مقرر کر دیا ہے۔

جناب چیئر مین: حاجی صاحب کس نے مقرر کیا ہے؟ Is it a matter pending in the court?

Senator Haji Muhammad Adeel: Nothing is pending in the court.

جناب چیئر مین: Nothing اچھا یہ administrator کس نے مقرر کیا ہے؟

سینیٹر حاجی محمد عدیل: یہ Security and Exchange والوں نے۔

جناب چیئر مین: اچھا 'Security and Exchange Commission نے appoint کیا ہے۔

سینیٹر حاجی محمد عدیل: سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا سرمایہ ان کے پاس ہے، میرے صوبے سے 22 کروڑ

جمع ہیں۔

جناب چیئر مین: اگر sense of the House ہے تو اس matter کو refer کر دیتے ہیں to the

Finance Committee to look into the matter. ٹھیک ہے ناں جی۔

سینیٹر حاجی محمد عدیل: میں House کا مشکور ہوں۔

جناب چیئر مین: بالکل ٹھیک ہے جی. We refer it to the Finance Committee. اچھا

move to the next item. Minister In charge of the Law and Justice may move Item No. 3.

سینیٹر کلثوم پروین: جناب میرا ایک point ہے۔

جناب چیئر مین: اچھا مسز کلثوم کا Point of order لے لیں۔ جی، جی ضرور فرمائیں۔

#### Umra Visas

سینیٹر مسز کلثوم پروین: شکریہ جناب چیئر مین، جناب جب میں نے آپ سے بھی ایک letter عمرے پر

جانے کے لیے لیا کوئی more than 20 days ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھ بلور صاحب، بلیدی صاحب بھی تھے لیکن

وہاں سے ہمیں جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ آپ ذرا Religious Affairs کے Minister Sahib سے کہہ دیں یا

آپ خود بات کریں۔ ہم وہاں جا کر آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں گے۔ جناب بہت دن ہو گئے ہیں اور اس کے بعد وہاں

بہت گرمی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہم وہی same ہیں، میرا nephew میرے ساتھ ہے۔ یہ

ہی لوگ ہم پہلے ہو کر آئے ہیں۔ وہی ہم اب جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ کا letter بھی دیا۔ پھر انہوں نے

کہا جی اپنے پیڈر لکھ کر دیں۔ وہ formality بھی پوری کی مگر ابھی تک انہوں نے نہ letter واپس کیا ہے میں دن سے

اور نہ وہ جواب دے رہے ہیں۔ اگر آپ please خود بات کر لیں۔

جناب چیئر مین: چلیں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ جی بلیدی صاحب۔

سینیٹر ڈاکٹر محمد اسماعیل بلیدی: جناب چیئر مین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممبروں کا استحقاق بھی ہے کہ اگر

کوئی اپنی family کے لیے عمرے کے لیے apply کرے اور آپ خود بھی اس کو letter دے دیں، تو یہ ایک طریقہ کار

آپ بنا لیں۔ ان کے سفیر سے بات کریں کہ اگر ممبر بھی ایجنٹ کے ذریعے پاسپورٹ دیں تو پھر یہ تو پورے ہاؤس کی

توہین ہے۔ ان کو آپ یہ کہیں کہ ادھر ہم Members of Parliament ہیں۔ ہم اگر وہاں سفیر صاحب سے رابطہ

کریں، ان کا سفیر کسی وزیر، کسی سینیٹر یا ایم این اے سے ملنا گوارا نہیں کرتا۔ اگر ہمارے ہاؤس کی یہ حیثیت ہے، آپ ان

کے ولی عہد کو چھوڑیں، شاہ کو چھوڑیں۔ اگر ایک ان کا سفیر یہاں پر شاہ بنا ہوا ہے تو آپ باقاعدہ ان کو بلائیں یا اگر نہیں تو پھر ہمیں بتائیں کیونکہ یہاں کے ممبروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے مہینہ مہینہ وہ ہمارے خط کا جواب دینا گوارا نہیں کرتے حرمین و شریفین تمام مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ سعودیہ کی نہیں ہے، ہم وہاں عمرے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اگر ہمارے ساتھ یہ رویہ ہے تو ہمارا ایک آزاد ملک ہے ہم غلام نہیں ہیں۔

جناب چیئرمین : جی حاجی عدیل صاحب۔

سینیٹر حاجی محمد عدیل : جناب والا ! وہ ہمارے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ official passport جو ایک visit visa کے لیے ہوتا ہے، ہمیں routine میں کئی دفعہ مل چکا ہے۔ اس agency کے پاس جانے کے لیے ہمیں ایک مہینہ پہلے وقت لینا پڑتا ہے اور پھر وہ passport داخل ہوتا ہے اور ایک ایک مہینے تک کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ جناب اس میں دوسرے بھی ویزے ہیں، ہم کہیں اور نہیں جاسکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم قید ہو گئے ہیں اور یہی امریکہ کے ویزے کے لیے apply کریں تو passport لے کر رکھ لیتے ہیں، چھ مہینے بعد جواب دیتے ہیں اور passport ان کے پاس پڑا رہتا ہے۔ پاکستان کے شہریوں کے نمائندے کے ساتھ تمام ممالک تو بین آ میز سلوک کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وہی reciprocate کریں۔ ہمارے سفارت خانے ان کے ساتھ وہی کریں اور ویزے کے لیے جو فیس لیتے ہیں وہ British visa کے لیے 60 ہزار روپے کے لگ بھگ ہے۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ British National کے لیے 60 ہزار روپے فیس لے۔ Reciprocal ہونا چاہیے۔ اگر وہاں ہمارے جوتے اتارے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بھی یہاں جوتے اتارنے چاہئیں۔ جب ہم ان کے airport میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ہماری ہیٹ، جوتے اور ہماری تلاش کتوں سے لیتے ہیں ہمیں بھی وہاں کتے کھڑے کرنے چاہئیں اور جس جس ملک کے لوگ جیسا رویہ پاکستانیوں کے ساتھ رکھتے ہیں ویسے ہی ہمیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ وہ ہمیں خیرات دیتے ہیں، وہ خیرات ہمیں اپنی مجبوری کے لیے دیتے ہیں۔ اگر یہ ملک قائم نہیں رہے گا تو یہ سارا علاقہ طالبان کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اس لیے وہ امداد دیتے ہیں۔ جناب چیئرمین ! میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان اس معاملے میں خاموش ہے تو اس معاملے میں تمام سفیروں کو اپنے کمرے میں بلائیں اور آپ ہماری عزت اور وقار کے لیے، پاکستانیوں کے معاملات میں دلچسپی لیں۔

جناب چیئرمین : شکریہ بہت بہت، جناب مولانا صاحب۔ آپ بھی بولیں گے۔ فکر کیوں کرتے

ہیں۔ please

سینیٹر محمد اسحاق ڈار : حاجی صاحب کا جانے کا پروگرام ہے تو پھر یہ اپنا passport pull out کر سکتے ہیں اور وہ process ہوتا رہے گا تو وہ پھر دوبارہ بلا لیں گے۔ میں نے کہا ہے کہ انہوں نے جاننا نہ ہو۔

جناب چیئرمین : بات یہ ہے کہ ہر embassy کے اپنے rules of procedure ہیں۔ اچھا جی، بگٹی صاحب دیکھیں، embassy کے اپنے rules of procedure ہیں۔

سینیٹر شاہد حسن بگٹی: جناب! rules of procedure اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ تمام پابندیاں صرف پاکستانی شہریوں کے لیے کیوں ہیں؟ دوسری بات میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ میں نے خود سعودی عرب عمرے کے ویزے کے لیے apply کیا تھا on official capacity on blue passport لیکن مجھے visa reject کیا گیا تھا۔ اب recently میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی delegation جارہا ہے، اس delegation کے official passports embassy میں official tour کے visa کے لیے گئے ہیں اور میں آپ کے اور تمام ممبران کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ صرف پانچ دن کا visa دیا گیا ہے۔ ۳ دن تو officially tour ہوگا تو اگر خدا نخواستہ وہاں delegate بیمار پڑ جائے تو وہ کیا کرے گا کیا اس کو deport کیا جائے گا۔ اس کو اتنی space مل جائے۔ آپ یہ مہربانی کریں۔ آپ Foreign Minister کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں کیونکہ ہمارے جتنے بھی officially visit visa کے لیے applications جاتی ہیں تو verbal note جاتے ہیں لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ پورے ہاؤس اور گورنمنٹ آف پاکستان کی توہین ہے۔

مولانا صاحب: Mr. Chairman: I will discuss the matter with the Foreign Minister.

سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری: جناب چیئرمین! واقعی یہ حساس مسئلہ ہے اور پاکستانیوں کو اس حوالے سے کافی دشواریوں کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ اس طرح کریں کہ وزارت داخلہ ذمہ داروں کو بلا کر ان سے بات کرے ایک تو ہمارے VIPs ہیں اور VIPs اس طرح شکایت کر رہے ہیں تو عام لوگوں کا کیا ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرد کا یہ حق بنتا ہے کہ جائز طریقے سے وہ پوری دنیا کا سفر کر سکتا ہے۔ چاہے وہ عرب ممالک ہوں، چاہے یورپی ممالک ہوں لیکن انہوں نے ایسا طریقہ بنا لیا ہے کہ ہمارے پاکستانی لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے اس طرح بات تو کریں۔

Mr. Chairman: We will take up the matter with the Minister for Foreign Affairs.

سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری: ایک سیکنڈ میں اور لینا چاہوں گا جو حاجی عدیل صاحب نے بات کی وہ حقائق پر مبنی ہے کہ وہ ہمارے بندے سے 60/60 ہزار روپے ویزے کے لیے لیتے ہیں تو افسوس کی بات ہے کہ اگر اس کو visa نہیں دیتے تو پیسے بھی واپس نہیں دیتے۔ یعنی یورپ ممالک کا یہ عجیب طریقہ ہے تو اس حوالے سے ہماری حکومت ان سے بات کرے۔ آپ دیکھیں عمرے کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ اس کے لیے آپ نے اقدام کرنا ہوگا۔

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے مولانا صاحب میں نے کہہ دیا ہے کہ I shall take up the matter with the Minister for Foreign Affairs. The Minister in-charge of the Law and Justice may move item No. 3.

(مداخلت)

جناب چیئرمین: میں نے specially لے لیا ہے۔ جی۔

سینیٹر محمد کاظم خان : ایک دفعہ مائیک ذرا کھول دیں۔ میری بات سن لیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کریں۔ ایک دفعہ میں امریکہ کا وزہ لینے گیا تو میں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں وغیرہ وغیرہ نمائندہ ہوں تو اس نے کہا کہ every body is equal in my eyes وہاں ریگن کی تصویر لگی ہوئی تھی تو میں نے اس سے کہا، Peter اس کا نام تھا تو میں نے کہا کہ Mr. Peter، do you think you and Reagan are equal. وہ چپ کر گیا اور اس نے کہا کہ کل آئیں وزہ لے جائیں اصل میں ہے۔ tit for tat اس کا جواب tit for tat ہے۔ آپ کمزور نہ بنیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو وزہ ضرور ملے گا سارے دیں گے۔  
(ڈلیک بجائے گئے)

#### Ordinances To Be Laid

Mr. Chairman: OK. Thank you. Now, may the Minister-in-Charge of the Law and Justice may move Item No.3.

Madam Mehreen Anwar Raja: (Minister-in-Charge of the Law and Justice): Thank you Chairman, first, I would like to respond to my honourable members

ان کے جو concerns ہیں بالکل genuine ہیں اور یہ relevant ministries تک پہنچائیں جائیں گے۔ I hope some thing would come as an answer. Now I lay before the Senate the following ordinances as required by Clause (2) (a) (ii) of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan:

- i) The Sacked Employees (Reinstatement) Ordinance, 2009 (Ordinance No. II of 2009).
- ii) The Oil and Gas Regulatory Authority (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No. IV of 2009).
- iii) The National Vocational and Technical Education Commission Ordinance, 2009 (Ordinance No. VI of 2009)

Thank you.

Mr. Chairman: Ordinances stand layed.

سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان : جناب والا! . On a point of order.

Mr. Chairman: Are you on a point of order?

سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان : جناب یہ Ordinances کے بارے میں ایک request ہے۔ درست ہے کہ حکومت کو اختیار ہے اور صدر مملکت کو بھی آئین نے اختیار دیا ہے کہ وہ ordinances promulgate کریں لیکن گزشتہ پورے سال کی تاریخ کو دیکھا جائے تو چند act parliament سے پاس ہوئے ہیں جبکہ تقریباً بیس ordinances lay down ہوئے ہیں اس سے پہلی حکومت سے بھی یہ شکایت رہی اور آپ سب دوست ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ اب بھی یہ request ہے کہ President House کو ordinance factory نہ بنایا جائے۔ پارلیمنٹ کو باوقار بنایا

جائے۔ پارلیمنٹ کو اختیار دیا جائے اور پارلیمنٹ اگر کام کر رہی ہے اور دونوں ایوان اپنے دنوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں تو ordinances کی بجائے یہ legislation through پارلیمنٹ کی جائے۔

جناب چیئرمین : جی ٹھیک ہے۔ آپ اس بارے میں بخاری صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں۔

Senator Syed Nayyer Hussain Bohkari: Article 89 itself says, they may be treated as Bills.

جناب چیئرمین : ٹھیک ہے۔ اچھا۔ We may now take item No.4

سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان : یہ bill نہیں بن جاتا۔ قومی اسمبلی میں تو وہ بن جاتا ہے لیکن سینیٹ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ اس لیے گزارش ہے کہ آئین میں یہ ترمیم کر دی جائے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو سینیٹ کو بھی یہ اختیار دے دیا جائے کہ یہاں جو بھی ordinance lay down ہوتا ہے وہ فوری طور پر بل کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو سینیٹ اس پر بحث کرے۔

#### Discussion on President's Address

Mr. Chairman : We may now move on. Item No. 4 has already been moved by Syed Nayyer Hussain Bohkari, Leader of the House on 21st April, 2009, regarding discussion on the President's Address. Yes, before I invite Mr. Wasim Sajjad to start the discussion on the President's Address---

جی پارلیمنٹری لیڈر 15 سے 20 منٹ تک speech کر سکتے ہیں۔ Other honourable members 8 to 10 minutes. Now I request Mr. Wasim Sajjad to start the discussion on the President's Address.

سینیٹر وسیم سجاد ( قائد حزب اختلاف ) : نماز کتنے بجے ہے۔

جناب چیئرمین : نماز تو ابھی لیٹ ہے کیونکہ ایک گھنٹہ بڑھ گیا ہے۔ نیا وقت ہے۔ یہ time آگے آ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ابھی تک پرانے وقتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پرانے بارہن رہے ہیں۔

Senator Wasim Sajjad: Mr. Chairman, I am really grateful to you for giving me the opportunity.

جناب چیئرمین : اچھا ایک منٹ وسیم سجاد صاحب۔ جو بھی ممبران اپنا نام دینا چاہیں وہ لسٹ میں نام دے دیں تاکہ لسٹ prepare ہو جائے۔ نام دے دیجئے اور باقی ممبرز سے بھی request ہے so to give the names, that the list can be prepared accordingly. Thank you.

Senator Wasim Sajjad: Mr. Chairman, I am grateful to you for giving me this opportunity to express my views on the address of the President to the Joint Sitting of the Parliament on the 20th of March, 2009. As you know sir, the address by the

President to the Joint Sitting is actually an assessment by the President of the policies of the Government over the past years and the presentation of the policies of the Government for the next year. It is an opportunity for the President for overall review of the situation and this gives the members of the Parliament an opportunity to discuss the policies of the Government at length and particularly for the Senate. It is important because we do not get the same opportunity to discuss national issues as have the National Assembly during the budget session. On an occasion like this' it is really a matter of deep regret for me that I do not see here the Minister for Interior, I do not see the Minister for Foreign Affairs, I do not see the Minister for Finance, I do not see any important minister who is sitting here. Of course the Leader of the House is here and we are grateful but the Leader of the House can not be the panacea for all the policies of the Government of Pakistan. This is an opportunity when we want to express our views and we want these views to be noted, taken seriously and proper response given. It is really a matter of regret that nobody, who has been mentioned in the speech, as having some relationship with the policy of the Government is available to listen to the speeches of the members of this honourable House.

When I was going into the Hall to listen the speech of the President, I was thinking to myself what would be a kind of speech that the people of Pakistan would like to hear from the President of Pakistan today. Mr. Chairman, there is no doubt about the fact that this is a very crucial period in the history of Pakistan. A period when Pakistan is beset with all kinds of problems; problems on the external front, problems on the internal front, problems of governance, problems of economy. I thought the best speech that the President could deliver would be to come before the House and openly say that my government was elected on 18<sup>th</sup> of February, 2008. We made promises to the people of Pakistan. We told them that we will bring law and order to the country. We told them we will reduce inflation. We told them that we will bring employment. We told them that we will deal with the economic recession. We told them that we will deal with the suicide bombings that are taking place in Pakistan. And to say that we made these promises but I must confess before you that we have not been able to come up with the standard. He should have said that I seek time from the people of Pakistan. We have these problems and difficulties and he should have appealed to all the parties in the country. Sir, this is a time when we have to rise above politics. He should have appealed to all the political parties across the board for their support in dealing with this situation. But on the other hand, sir, I was disappointed to note that the President says

that things are improving. Sir, may be sitting in the President House, this is the information that is being given to him by his ministers and advisors. They are telling him that things are alright. If only he were to go into the streets of Pakistan, if only he were to talk to the people of Pakistan, he would find that there is a total disconnect between the government and the people of Pakistan today. The people of Pakistan are disappointed. The people of Pakistan are disturbed. The people of Pakistan today live in a climate of fear. There is total fear all over the country. The people of Pakistan, when they move from one place to another, they go under severe threats and fear. The economy is going down. Pakistan is being isolated and the schemes which our enemies had devised for us, unfortunately I find that those schemes are successful. So therefore, it was an opportunity for the President to confess this situation and to make an appeal to all the parties, may be call an all parties conference and say that this a time when I need your support to resolve these problems and difficulties which are faced by the people of Pakistan.

Mr. Chairman, the President in his address, starts off by saying that he believes in the supremacy of Parliament. Sir, this is a very good declaration. Supremacy of Parliament means the supremacy of the Constitution of Pakistan. Supremacy of the Parliament means the writ of parliament. And the government flows from the Parliament, with the writ of government, with the writ of Parliament. The Constitution of Pakistan is now governing the affairs of the people of Pakistan. Sir, may I ask, is there any constitutional writ of the Government in Swat? We are finding every day the authority of the Government of Pakistan is being eroded. Is there any constitutional writ of the Government of Pakistan in Bunir? This morning's newspapers are saying that the writ of Pakistan has evaporated in Shangla. In these areas, is there any authority of the Government of Pakistan? Is there any constitution of Pakistan? May I ask you Mr. Chairman, are the courts in these areas functioning according to the Constitution? Is the executive able to enforce the authority of the President? The members of the Parliament, members representing these areas, are they able to go there into their own areas? Are they able to properly represent the views of the people of their areas and represent their interests in Parliament? So where is the Constitution of Pakistan? Where is the governance of the Government of Pakistan? Where is the writ of the Government of Pakistan?

Sir, enforcement of Shariah is a perfectly valid thing. Shariah is enforced in Saudi Arabia but does the enforcement of Shariah means the absence of the Constitution

of Pakistan? Does it mean abdication of the authority of the Government of Pakistan? Sir, these are crucial issues and this is a serious problem on which the Government needs to take all the parties into confidence. I must say again and again, this is not a matter that can be taken lightly. The Constitution of Pakistan must remain the supreme law and all authorities must emanate from the Constitution of Pakistan. Sir, may I ask where is the High Court in Swat, Bunir and Malakand Areas? Where is the Supreme Court? We were told that a Bench of Supreme Court will function in Malakand. Sir, are we not talking totally against the realities on the ground? How can the Supreme Court function in Malakand? Will the lawyers be able to appear before the Bench in Malakand? Will the judges be able to administer justice in accordance with the Constitution in that areas? I will also say sir, that the Government of Pakistan appears to be totally confused in their policy in these area. On the one hand the Government says that our writ will be enforced. The second day, they say no, we have now said first restore order then we will enforce the regulation but sir, all I am saying is enforcement of Shariah, nobody can oppose that but enforcement of Shariah must be in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan.

In the address of the President there is a reference to the Charter of Democracy and a request by the President to the Speaker to form a Committee to amend the Constitution in the light of the Charter of Democracy. Sir, you will agree with me that the Constitution being the basic document, must be a document which has the support of all, the various sections of society in the country. It is the consensus document and every effort should be made that it represents the consensus in the country. The Charter of Democracy is an agreement between two parties and I must confess that it has many good points which will strengthen the institutions in the country but there are other parties in Pakistan. Jamat-e-Islami may have a point of view, Pakhtoonkhwa Mili Awami Party has a point of view. The Baloch parties have a point of view. Pakistan Muslim Leagu (Q) has a point of view. Therefore, sir, you must give ownership in the Constitution across the board to all the people of Pakistan. As I said there are suggestions in the Charter of Democracy which are good, which are welcomed and when the time comes, we will support them but there are certain things which will be harmful to Pakistan. There are certain ideas which our friends will give, which will further improve the constitutional functioning and therefore our suggestion is that instead of saying that you amend the Constitution in the light of the Charter of

Democracy, why don't you say you amend the Constitution in the light of the aspirations of all the people of Pakistan. Why do you want to make it a two party document?

Now in the Charter of Democracy, as I said, there are certain suggestions which are certainly good. For example repeal of the 58 2(b) clause. Most of the parties are now demanding that this should be done away with. For instance, the taking away of the discretionary powers of the President which are not consistent with a parliamentary democracy and transferring those powers to the Prime Minister, appointment of the service chiefs, this should be an appointment of the Prime Minister. The repeal of certain provisions of the 17<sup>th</sup> amendment, I am sure most of the parties would support those proposals but having said that there are certain provisions, commitments made in the Charter of Democracy, which in my humble opinion will be very harmful to the democracy in Pakistan, to the Pakistani institutions and to the whole structure of the federation that we have in Pakistan today. I am referring sir, to the proposal in the Charter of Democracy to which the parties have committed. Under which it has been agreed that a constitutional court would be set up and this constitutional court will take away all the powers of the Supreme Court of Pakistan on the constitutional matters and the Supreme Court of Pakistan will be only dealing with the normal civil and criminal cases.

Mr. Chairman, in our history, we have never had such a court. The Supreme Court of Pakistan has been the focus of all judicial power in the country. The entire judicial powers in the country is vested in the Supreme Court and the hierarchy of courts under the Supreme Court, one unified system and whether it is constitutional or any other matter all these matters come before the High Courts and then they go to the Supreme Court. You have been a lawyer sir, you know sometimes, the matters are connected, you can not separate one from the other. If you create the Constitutional Court, you erode the authority of the Supreme Court of Pakistan. You will weaken the Supreme Court of Pakistan and as a result you will weaken the High Courts in the country. The ability of the courts to deliver justice will be eroded. Then, when you have a Constitutional Court and the Supreme Court and High Courts, there will be a conflict of jurisdictions. There will be a struggle over territory, which court will decide this matter, which court will decide that matter. You will have to say that one of the courts is going to be supreme because if both courts start handling both matters, there will be total chaos. So, I will request the PML (N) leadership and the PPP leadership that please don't blindly follow what you had agreed to act that time. Look at it afresh and look it afresh

in the light of suggestions that our colleagues from different parties will be able to give you and in the light of that you may proceed to look at the Constitution not as a two party package but as a document which represents the aspirations of all the people of Pakistan.

Sir, the President in his address also mentioned his commitment to constitutional rule and he has said that we wish to strengthen the democratic institutions in the country. The story Mr. Chairman is totally the opposite. Despite our differences on the political level, I have no hesitation in saying that the imposition of Governor's rule in Punjab was totally unconstitutional, totally undemocratic, cannot be justified under any circumstances and the very second day myself and my colleagues in the Pakistan Muslim League condemned this action. We feel that political expediency should not take precedence over laws, principals and the Constitution. There was absolutely no justification for Governor's rule. If the Chief Minister had been disqualified, the only proper course of action for the Governor of the province was to summon a fresh session of the assembly. Ask the assembly to elect a new leader of the House and let the Government proceed. One mistake by the Government, you can see sir, how much chaos it led to and this chaos, we cannot ignore at this stage in our history, at this stage in the development of our country. It prevents people from investing in Pakistan, it creates the climate of fear and as a result of that, the capital starts moving out of Pakistan. When capital starts moving out of Pakistan, the Rupee value falls, no investments are made, there is unemployment, there is joblessness, there is frustration and this is all that we are seeing happening in Pakistan today. People have stopped coming into Pakistan, people have stopped setting up industry, there was massive flight of capital from Pakistan and this state of affairs is continuing in the country.

The law and order situation sir, I don't have to say very much. The dacoities, phone snatchings, suicide bombings, this is what has been the chronicle of the last one year of this Government.

جناب والا! آپ دیکھیں کہ تقریباً ہر شہر میں bomb blast ہو رہے ہیں suicide bombings ہو رہی ہیں۔ ایک خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے۔ جب سری لنکا کی ٹیم آئی تو اس ٹیم کے ساتھ پوری سکیورٹی تھی۔

They had police vans with them, they had pilots with them, they had elite force with them. See what happened? The people came and fired at them, there was no response, nobody was injured, nobody was killed and the people went and evaporated in full day light. What does it show? It shows that even the morale of the police force has been eroded; it shows that they do not have proper training; it shows that there is an

intelligence failure. All these things will have to be strengthened, to be able to create security for the people. The Government should take proper measures to strengthen the police forces because without proper training, without intelligence input, without giving them training, they cannot use their weapons. And not only that sir, it also transpired that they did not have sufficient ammunition to be able to deal with the situation that was created at that spot. Sir, our heads hang in shame because as a result of this we were not able to fulfill our promise that we had given to the Sri Lankan team and to the Government of Sri Lanka. We had told them that you will be provided with Presidential level security. They came to us as friends because this was the time when the world especially India was trying to isolate us, they came to us as friends to help us, to give confidence to the people out side that Pakistan is a safe place, you can still go and play cricket in Pakistan. How did we treat them sir? They were fired upon, some of them were injured and I am grateful to God that no life was lost in the Sri Lankan team. Otherwise, we would not be able to face them ever in the future.

Sir, as far as the economic situation is concerned, let us compare, the economic indicators about a year ago and the economic situation today. At the time the elections took place, the value of the rupee to the dollar was about 60 rupees, today it has gone a little beyond 80 rupees but I must say at least it has stabilized at around 80 rupees. The price of flour today is about 25 to 26 rupees a kilo, it was almost at half about a year ago. Electricity today, is about 10 rupees a unit, a year ago it was about 6 to 7 rupees a unit. Sir, everywhere there is a steep incline, every indicator is showing that the economy is under deep trouble.

As far our industries are concerned, industry is closing down, not only because of higher interest rates but also because of load shedding industry cannot run. Higher gas prices, higher electricity prices and the result is, the industry is closing down. Result is unemployment, inflation, frustration and disappointment. These issues have to be understood and they should take into confidence friends like Mr. Ishaq Dar who knows these matters. We should seek support from all sections wherever they can get it. These are experienced people, they have handled these crisis before. But today we find absence of governance and total abdication of authority, whether it is in the field of law and order, whether it is in the field of governance or it is in the field of economic affairs.

(At this stage the voice of Azan of Maghrib)

جناب چیئرمین: وسیم صاحب! آپ کتنا time اور لیں گے۔

سینیٹر وسیم سجاد: جی وقت تو تھوڑا لگے گا۔  
 جناب چیئرمین: کیونکہ آج جمعہ ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔  
 سینیٹر پروفیسر خورشید احمد: مجھے ملک سے باہر جانا ہے۔  
 جناب چیئرمین: پروفیسر صاحب بھی آج ملک سے باہر جا رہے ہیں۔  
 سینیٹر پروفیسر خورشید احمد: بہر حال ان کا پہلا حق ہے۔  
 جناب چیئرمین: ان کا تو حق ہے، میں ان کو منع نہیں کر رہا ہوں۔  
 سینیٹر وسیم سجاد: جی تھوڑا وقت لگے گا، میں کوشش کرتا ہوں۔  
 جناب چیئرمین: تھوڑا وقت لگے گا۔ پروفیسر صاحب! آپ کیا کریں گے۔  
 سینیٹر پروفیسر خورشید احمد: میں رہ جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے۔

جناب چیئرمین: کوئی بات نہیں ہے کیونکہ we can move for another 20 minutes اس سے  
 زیادہ نہیں چلا سکتے کیونکہ ہمیں adjourn کرنا پڑے گا۔ میں وسیم صاحب کو منع نہیں کر رہا۔  
 Yes, please continue.

Senator Wasim Sajjad: So, Mr. Chairman, I was dealing with a very important sector of our economy which is the industry and I was trying to tabulate or indicate to you, how the industry is coming under pressure and as a result the industry is closing down. In fact one of my colleague I think, he must be sitting here, he told me that they had entered into an agreement with an Egyptian company to set up a textile mill somewhere near Karachi. When the law and order situation broke down they came and said we are unable to invest in Pakistan. There is no security for our people and there is no security for our capital. How can we invest in this country? As I said earlier sir, the people have stopped for coming herein and in this situation certain measures, drastic measures are required and the Prime Minister and the President must insist on the economic management of the country. The finance Minister and the economic management have to take certain steps on urgent bases to stabilize and retrieve the situation.

I would suggest the following;

1. Pakistan is going against the world trend by increasing the interest rates on loans, industry runs on loan and if you increase cost of capital, you make your products uncompetitive. If let us say the interest in Pakistan is 14% and in India is 10% and in China is even less, they will be able to produce goods at a much lower price than Pakistan. When your products compete in the world, obviously if it is of a lower price, it will be more attractive and it will be sold more. Pakistan has moved against the

world trends by increasing rates because by reducing interests you also increase the availability of capital in the country. All the countries, England has reduced rates, India has reduced rates, America has reduced rates and Pakistan is a country which has tried to manage the situation by increasing the rates of interests in the country with the result that there is further pressure on industry in Pakistan. I would not be surprised, if more industry is closed down, leading to our banking crisis for at least a calamity for the industrial sector, the worst kind of calamity many years ago, as a result of which the State Bank had to come out with the special scheme for writing off loans, known a circular No. 29. In fact, I would also add that because of the crisis which the industry is facing, a similar measure is required to help the industry, to strengthen them, to put them back on rail because the crisis that we are facing today is not of the creation of the industry. In fact, I welcome the move by the State Bank of Pakistan, reducing the interest rate by about 1%, for I think they need to reduce it at least by another 5% to make the industry strengthened and viable once again.

2. There is load shedding and every effort should be made that the industry of Pakistan is exempted from load shedding. If there is any increase in the production of power in the country, efforts should be made that industry should be exempted and the burden can then be shared with the other sectors of our society because if the industry falls down, if the industry caves in, everybody is going to be affected and we will have an economic situation, we already have a law and order situation, we have insurgency situation, we may have a human situation that we may not be able to control.

3. We should discourage import of finished goods into the country. We should encourage import at lower prices, lower taxes of material which is needed for our industry and we should discourage finished goods so that we can encourage industry and our own industrial sector. We should produce more ourselves, we should rely on ourselves rather than living on imports. We have lived heavily on imports. Next, all luxury goods must be taxed heavily, we don't need them, we can live a simpler life. Now is a crisis time, the Government needs to take charge and heavily tax luxury goods.

We should also encourage agro based industry. Pakistan is the one of the biggest producers of milk in the world. How are we using it? We have not been able to use that resource in a proper way, if we do it, our products could go all over the world.

These are some of the suggestions as far as the industry is concerned. As far as agriculture is concerned, this is the backbone of our economy; nearly 70% people

are engaged in agriculture. God has given us water, although steadily, gradually the water resources are being depleted. We need to look into that, that is the crisis which is looming on the horizon and water is getting reduced every year. On top of that, the rights to the rivers which were granted in the Indus Water Treaty, those rights are being violated by India and we are not taking enough notice, sufficient notice or reacting in the manner which is required to protect our rights under the Indus Water Treaty.

Sir, this is going to be a bigger problem, I would say a huge problem, bigger than any problem that we faced with India, if the land of Pakistan is deprived of water resources. We need to address this issue because if we delay it too much, we might find that we are so engulfed by the problem that we cannot see any solution. As far as agriculture is concerned, we need to reduce the prices of inputs into agriculture. Our farmers are not getting the kind of profits from agriculture that they deserve. They put in hard work but a lot of the profit is taken by the middleman and the farmer on the ground is not getting enough, we need to look at that problem.

We need to reduce the prices of fertilizers, reduce the taxes. We need to reduce the prices of tractors and give subsidies. The whole world is giving subsidies on agriculture. Why can't we think of subsidies for the agriculturists in Pakistan? Sir, this is a crisis situation that we are dealing with. The world is in recession and we need to think of positive measures by which we can strengthen our economy and its system.

Coming next to the other big problem that we are facing today, the Balochistan situation. The President, in his address, has shown sensitivity to the problem and for the last two or three days we have discussed it at a great length. Some solutions have come forward. The President has said that a committee needs to be constituted on the Balochistan issue and he has also said that they may take benefit from the committee which was already being constituted. I think he was referring to the committee which was setup by Chaudhary Shujaat Hussain, when he was the Prime Minister. As you all know sir, the two sub-committees were setup, Mr. Mushahid has the committee and I had the honour to head the committee on the constitutional amendments.

The Advisor on Interior has given us a good briefing, based on information which the Government has from various sources. The information based on intelligence sometimes can be wrong. In fact, that the best intelligence information, at least we believe so, is a one given to the American government by their intelligence agencies but even those intelligence agencies failed. They were unable to detect when the Indians

shrouded their nuclear device, they went wrong on Iraq, they gave information regarding the weapons of mass destruction in Iraq, they did not find any. They went wrong when they said there was some deal going on for nuclear material in Niger, it proved to be wrong. These are very well resourced, well funded, highly specialized intelligence agencies, they can go wrong. So, therefore, the intelligence information which was given to the Interior Minister, I am glad he shared it with the Senate and in the Senate our members, who are more aware, who have their feet on the ground, they were able to point out some flaws. I do hope that the Government will benefit from the advices, suggestions, contradictions given by our honourable members so that they are able to improve their information because if the information is wrong, the decision is also going to be wrong.

Having said that sir, we have now discussed the Balochistan issue, there is need for urgent action, administrative changes are needed, some positive financial commitments have to be made and some constitutional changes also need to be made. The President has talked of the establishment of the committee, I do hope then such a committee will be formed very soon and unlike other committees, a deadline will be given so that all these suggestions which are coming from the members, all the inputs which have come from various sources, that can be consolidated and a package is prepared for Balochistan, an economy package or financial package, a constitutional package, in not more than 60 days.

Time is flying very fast but one thing we must insist, as I was saying earlier that the Constitution of Pakistan must remain supreme. The Government must not abdicate its authority, the Government must ensure that its writ is followed, this writ should be followed in Balochistan, it should be followed in Punjab, it should be followed in Sindh, it should be followed in NWFP, it should be followed in Swat, it should be followed in Boner, it should be followed in Shangla, it should be followed all over Pakistan. We must condemn any statement, any declaration of independence from Pakistan. This is something that will not be acceptable. We have no sympathy with people who talk of independence from Pakistan. Pakistan will be there, it will remain there. This is the time when we need collectively to get together to ensure that Pakistan is not weakened in any manner, in any form whatsoever.

This brings us sir, to the next question, the foreign policy of Pakistan. Foreign policy of any country is intended to promote the interest of that country. President Obama is a President of the United States, he is not the President of Pakistan, he will

obviously talk of the interests of the United States. But the Government of Pakistan has to ensure that the interests of the people of Pakistan are protected. The foreign policy of Pakistan must ensure the sovereignty of Pakistan, the integrity of Pakistan and the security of its borders. The foreign policy of Pakistan must also ensure that the economic interests of Pakistan are protected. All of our efforts in foreign policy should be motivated, geared towards the protection of the interest of Pakistan.

Sir, the impression in Pakistan today is that we are not doing that. The impression in Pakistan is, I am sure, I am wrong but the impression in Pakistan is that we have been pursuing the interests of other countries and we are ignoring our own interests. I think, what is happening is that in the desire to pursue their own interests and I can't differ with that, every country wants to pursue its own interests but a line has to be drawn by the people of Pakistan, where their interests get infringed. At the moment there is no doubt that we are facing a very difficult situation on the borders between Pakistan and Afghanistan.

The President of Pakistan in his address has welcomed the statement by President Obama regarding the new policy of the new Administration on this region. I did not see any reason for welcoming that policy. For one treating Pakistan and Afghanistan as one area of trouble, misses the whole point. Sir, we are the victims of aggression. The situation that we face in Pakistan today is not the result of one year or two years, it's a result of many years struggle, it's a result of the cold war, it is a result of the Afghan "Jehad" against the Russian intervention. We have to face the consequences and instead of sympathizing, understanding the problems of Pakistan, we are being put under pressure and because terror has become a buzz-word in the world, the moment one talks of the war of terror or terrorism, the whole focus comes on Pakistan. There is a deliberate policy by our enemies to think of every issue in Pakistan or make it look as every issue in Pakistan through the prism or the binoculars or spectacles of terrorism. Anything that happens, they connect it with terrorism. We need to counter that through active foreign policy. As far as the policy of President Obama is concerned, we should ask our American friends. No.1. to make a firm commitment to the integrity and the sovereignty of Pakistan. They should make a firm commitment, there can be no compromise on that.

No. 2. the Drone attacks on Pakistani soil must come to an end. The Americans must understand that we are their friends. We understand the issues that are involved. We are capable of understanding their policies but if Drone attacks don't

produce the proper results, it leads to anger in Pakistan, the government loses the sympathy of the people of Pakistan, there is a reaction against the American intervention than what is the purpose in following such policies. Why can't the American administration understand that if at all these are necessary, why can't these be undertaken by the government of Pakistan. Why they are hesitant to give us the kind of weapons, that kind of technology that we need to handle this problem. One problem that we are facing in the tribal areas is the use of FM Radio. Sir, I am not a technical man but I am sure there must be some devices somewhere by which these FM Radio broadcasts can be blocked or scrambled or made difficult. I want them to give us some equipment which is more powerful than that, so that they can be made less harmful, less useful, less effective. Why is it that there is so much trust deficit between Pakistan and America that as a result the interests of America are suffering, the interests of Pakistan are suffering. We are suffering more because they are sitting 10,000 miles away, for you, it is an academic problem but we face this everyday, we are facing deaths in our society, we are facing destruction of our economy, we are facing distrust of the government and we are facing strengthening of our enemies on our borders, because our concentration is on the problems internal as well as on the Pak Afghan border. We ask our friends whether it is America or the European friends to help us in dealing with these problems. We understand it is a problem, you can help us by strengthening our capacity to deal with this situation. We need finances, we need industry in that area, we need to increase the people who get job in that area. We need to strengthen our armed forces. We need to help them in their capacity building. We need all kinds of instruments, we need light vision goggles, we need helicopters to deal with those hilly areas, we need drones, why are they distrustful of Pakistan, why can't they help the people of Pakistan, the government of Pakistan, the armed forces of Pakistan to become their allies and to help our own situation. Why does America feel that they alone can do this and in this process they damaged not only the relationship but also create distrust between the people and the government of Pakistan.

Sir, I think it is time that the Western countries, the European countries, the European Union should also be told about the crises that we are facing. The OIC on which we rely, the Muslims Countries they are very silent, why? I ask, and what is the government of Pakistan doing to break into this silence. What is our Foreign Ministry doing? Don't they realize the problems that the government of Pakistan is facing? How they are dealing with this situation? As far as the American system is concerned, we

know sir, that there are centers of power, the media is powerful, the Congress is powerful, the Executive is powerful. Are we interacting with them and who is interacting with these, how are we trying to change their views about Pakistan? Similarly sir, in the European countries, again the European Union, UK, France, Germany what are we doing? I ask the government of Pakistan, I ask the Foreign Minister of Pakistan, I ask the Prime Minister of Pakistan, are you aware of the dangers as a result of which Pakistan is being targeted? Shown to be a terrorist country. Investment is not flowing into Pakistan. The image of Pakistan is being destroyed. Are you aware of it? Are you aware how to deal with this? Do you have a strategy for this? Do you have a plan to deal with these problems? Do you understand what is to be done in America? Do you know what is to be done in Europe? Do you know what is to be done with the Muslim countries? If you have, please come and tell us. Please take our suggestions, our members have some views take them into account. You need to be very very active. You need to be on your toes. You need to counter act. We cannot just sit in silence, silence today is not an option. We need to move on all these fronts to be able to secure the interest of Pakistan.

Sir, As far as our relation with India are concerned. In fact I would say, that of all our relationships, I would give high priority to our relations with India. They are our neighbors, we have problems with them, we have problems in the past, we went to war with them, we have problems today and we are going to have problems in the future. I see water problem becoming a big problem that we have to deal with India. We need to be strong to deal with these matters. We need to strengthen the resolve of the people of Pakistan. We need to strengthen our Armed Forces to be able to deal with an enemy who is very powerful. But, what happened? The Mumbai incident took place and the moment the incident took place, while it was happening, the blame started on Pakistan and cleverly the use of word terror, in fact I would just mention that the Obama Administration had stopped using the word war on terror. It is a good development but the moment this incident happened the word terror began to be used. Terror is coming from Pakistan. It is based in Pakistan. It originates from Pakistan; the most dangerous country in the world is Pakistan. What was the purpose, the purpose was to paint this picture to the world that Pakistan is the originator of terror, the hot bed of terror, where terrorist is created and spread across the world and unfortunately this impression is gaining ground. We need to counter it.



سینیٹر وسیم سجاد: میں کوشش کرتا ہوں جی۔

جناب چیئرمین: کوشش کر لیں۔ Conclude کر دیں۔

سینیٹر وسیم سجاد: جناب والا! ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات مبینی واقعات کے بعد ہمارا composite dialogue ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے ساری دنیا میں ایک image create کیا جو ہم نہیں کر سکے یعنی ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو terror ہو رہا ہے، ہمارے جو لوگ مارے جا رہے ہیں۔ مشکلات جو ہمارے علاقوں میں آرہی ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور آج بھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ response from Pakistan we do not want to dignify it by giving an answer. President Sahib نے اور یہاں پر میرا اعتراض ہے۔ President Sahib نے اپنے interview میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ dialogue ہندوستان کے ساتھ جلدی شروع کریں۔

Sir, when dealing with these countries or any country one must maintain one's self-respect. We should not show any hurry to start a dialogue with India because the moment the President makes this statement, very next day the Prime Minister of India said that no unless you dismantle the terror organizations in your country, we will not start the dialogue with you.

Second day Mr. Jadamram, the Interior Minister, he comes out of the statement, no you dismantle the instruments of terror, the organizations of terror in the country otherwise we will not talk to you. Now these things were highlighted all over the world

کہ جی ہندوستان نے کیوں انکار کر دیا وہاں پر تو terror ہو رہا ہے؟ ہندوستان کا Prime Minister کہتا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے کیوں کہ terror ہو رہا ہے؟ یہاں ہم ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کریں۔

Sir, the Indians will talk to you when they feel it is in their interest to do so. They will not do so because you are asking for it. Is this way to conduct foreign policy? No sir, Indians will talk to you because Indians are also under pressure just as it is our interest to have good relations with India, it is in India's interest to have good relations with Pakistan. Pakistan is not a small country. Pakistan is not a weak country. Pakistan is not Afghanistan. They should know it and everybody knows it. America knows it, Europe knows it. A time will come and there is pressure on India, we should take advantage of the fact that today the world powers are focused on the Pakistan-Afghan border, the situation in Pakistan and Afghanistan and they do not want to see a situation where the intention of Pakistan is taken away from the borders to the eastern side. Indians are under pressure but where does the difference lie in our approach to our foreign policy

جس وقت امریکہ نے یہ پالیسی بنائی تھی یا بنانے جا رہا تھا انہوں نے اس وقت کہا جی کہ یہاں پر regional approach ہونی چاہیے جو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب وہ اس چیز پر پہنچ گئے ہیں یعنی وہ تشخیص صحیح کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم Hallbrook کو appoint کرتے ہیں اپنا special envoy and he will be envoy for Pakistan۔ لیکن انڈیا نے lobby کر کے سب کچھ کر کے اس کے agenda سے وہ نکال دیا اور ہم افغانستان اور انڈیا کے foreign relation چل رہے ہیں؟ کیا ہم بارکیوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ کیسی foreign policy ہے؟ کیسے ہمارے foreign relation چل رہے ہیں؟ کیا ہم بارکیوں کو ان چیزوں کو، ان developments کو جو دنیا میں ہو رہی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں چاہیے جناب! ہمیں اپنی self respect نہیں کھونا چاہیے

Let India take their time, we will not talk to India if they do not want to talk to us but in the meantime we should engage with all the important countries of the world, with Japan, with China, with Germany, with France, with our Islamic brother countries, engage with them, explain to them, what Pakistan problems are and how we are being targeted, how we are being victimized by our enemies and this is where foreign policy of Pakistan comes into play. Similarly, sir the Sri Lankan incident, I want to come to that again and wind up. Sri Lankan incident is an incident to destroy the image of Pakistan. It is not a matter which only the Pakistan's Cricket can deal with. The Government of Pakistan must get actively involved to ensure that, in at least two year's time we will be safe enough for countries to visit Pakistan. This was an attempt to destroy the soft image of Pakistan and they have succeeded. What are we doing?

ہم کہتے ہیں کہ وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ جا کر کرے اس کو کون پوچھتا ہے؟ یہ کام تھا President and Prime Minister sahib کا، ہمارے foreign Minister کا، ہماری سینیٹ کا، ہماری پارلیمنٹ کا کہ ہم دنیا کو جا کر بتائیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ ہم نے ان پر چھوڑ دیا تو وہ کیسے کریں گے۔

These incidents destroy the image of Pakistan. They cannot be handled just by the President of the Pakistan Cricket Board. We need to understand what is happening to our country. We need to understand that there are people who are destroying our image. We need to understand that the Pakistan's image is being targeted and we need to get out of this morass and we cannot do it unless the government becomes conscious

کہ جی یہ مسئلہ ہے۔ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے؟ جب مسئلہ کی سمجھ نہیں آئے گی تو حل کیا ہو گا۔ جناب! میں ان ہی الفاظ کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ جناب! نے کہا کہ ناظم زیادہ ہو گیا ہے مجھے تھوڑا سا اور وقت چاہیے تھا لیکن کسی اور موقع پر بات کر لوں گا۔ شکر یہ۔

Mr. Chairman: Thank you. The House stands adjourned to meet again on Monday the 27<sup>th</sup> April, 2009 at 05:00 p.m.

-----

*[The House was then adjourned to meet again on Monday, 27<sup>th</sup> April, 2009 at 05:00 p.m.]*

-----